

مدنی پھول برائے
سنت اعتکاف
آخری عشرہ

2017

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

﴿26﴾ مدنی پھول برائے سنت اعتکاف آخری عشرہ ﴿﴾

مدینہ: متعلقہ رکن شوری یا نگران کا بینہ سے مشورہ کر کے ضرورتاً جدول میں ترمیم کی جاسکتی ہے۔

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! آپے حسب حال اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں ہمیں معنی پر نظر رکھتے ہوئے اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کہنے کی عادت ڈالنی چاہئے اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کے معنی ہیں اگر اللہ عَزَّوَجَلَّ نے چاہا تو اور واقعی اللہ عَزَّوَجَلَّ کے چاہے بغیر ہم کچھ نہیں کر سکتے۔

﴿1﴾ اعتکاف کے حلقوں میں 100% شرکت اور جدول کی مکمل پابندی کریں گے ﴿2﴾ حلقہ نگران کی اطاعت کریں گے ﴿3﴾ غیر اخلاقی حرکات سے اجتناب کریں گے ﴿4﴾ اعتکاف کے تمام حلقوں میں اپنے اپنے حلقے کے شرکاء کے ساتھ شرکت کریں گے ﴿5﴾ وقفہ آرام میں بھی مقررہ جگہ کے علاوہ دوسری جگہ سونے کی ترکیب نہیں کریں گے ﴿6﴾ وقفہ طعام میں بھی اپنے حلقے کے شرکاء کے ساتھ ہی کھانے کی ترکیب بنائیں گے ﴿7﴾ دوران حلقہ موبائل فون کا استعمال نہیں کریں گے ﴿8﴾ دوران اعتکاف مدنی مذاکروں، اراکین شوری اور دیگر مبلغین کے بیانات سے مدنی پھول تحریر کریں گے ﴿9﴾ دن بھر ہونے والے بیانات اور سیکھنے سکھانے کے حلقوں وغیرہ کے مدنی پھول دہرائی کے حلقے میں سنیں گے ﴿10﴾ نگران اعتکاف کی مشاورت سے ضرورتاً حلقوں میں تبدیلی بھی کی گئی تو اطاعت کریں گے ﴿11﴾ اپنی مرضی سے کسی دوسرے حلقے میں نہیں بیٹھیں گے ﴿12﴾ حلقہ نگران کی تبدیلی ہوئی تو مجلس کی اطاعت کریں گے ﴿13﴾ حلقوں میں بروقت حاضری دیں گے ﴿14﴾ اپنا سامان، لحاف، چپل اور بیگ وغیرہ مقررہ جگہ پر اپنے حلقے کے اسلامی بھائیوں کے ساتھ اس احتیاط سے رکھیں گے کہ بکھرا ہوا محسوس نہ ہو، اچھے طریقے سے ڈھانپ کر رکھیں گے ﴿15﴾ ہر حلقے والے اپنے کھانے کے برتن دھوئے اور سنبھال کر رکھنے کی ترکیب خود کریں گے ﴿16﴾ معتقلین میں سے کوئی اسلامی بھائی تنگ کرے تو اُس سے اُلجھنے کی بجائے اپنے حلقہ نگران سے رابطہ کریں گے ﴿17﴾ کسی بھی پریشانی کی صورت میں اپنے حلقہ نگران سے رابطہ کر کے مسئلہ حل کریں گے، حل نہ ہونے کی صورت میں نگران اعتکاف کو مطلع کریں گے ﴿18﴾ معتقلین میں سے اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اُس کی عیادت کریں گے ﴿19﴾ مستقل قفل مدینہ تحریک میں ممتاز کیفیت کو پانے کے لئے بھر پور کوشش کریں گے ﴿20﴾ پانچوں نمازیں پہلی صف میں باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے ﴿21﴾ دوران اعتکاف فضول باتوں سے حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں گے ﴿22﴾ نگاہیں جھکا کر چلنے کی مشق جاری رکھیں گے

﴿23﴾ ضرورت کی بات بھی لکھ کر کرنے کی کوشش کریں گے ﴿24﴾ دوران اعتکاف قفل مدینہ کارڈ اور قفل مدینہ کا عینک سجانے کی سعادت حاصل کرتے رہیں گے ﴿25﴾ اعتکاف کے دوران جو امتحانات کا سلسلہ ہوا اُس میں بھی شرکت کی سعادت حاصل کریں گے ﴿26﴾ دوران اعتکاف اپنی انفرادی عبادات میں بہتری لانے کی کوشش کریں گے۔ اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ

﴿﴾ جدول برائے سنت اعتکاف آخری عشرہ ﴿﴾

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ طبعی حاجات سے فارغ ہو کر اور مدنی انعام نمبر 39 ”دن کا اکثر حصہ با وضو رہنے“ کی نیت کے ساتھ وضو سے فراغت کے بعد صفوں میں تشریف لے آئیے (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) (موتح کی مناسبت سے نام کا اعلان کیا جائے) مدنی انعام نمبر 20 پر عمل کرتے ہوئے تَحِيَّةُ الْوُضُوِّ اور تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ اور مدنی انعام نمبر 19 کے جُزُورِ عَمَلِ کرتے ہوئے تَهَجُّدُ ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

﴿﴾ اس کے بعد تَهَجُّدُ ، تَحِيَّةُ الْوُضُوِّ اور تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ کے فضائل بیان کیے جائیں، اگر دوران بیان کوئی اسلامی بھائی اپنے طور پر نواہل پڑھنا

شروع کر دیں تو ان کو انفرادی طور پر محبت سے سمجھا دیجئے ﴿﴾ (وقت 10 منٹ)

﴿﴾ فضیلت تَحِيَّةِ الْوُضُوِّ ﴿﴾

حضرت سیدنا اَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ شَهْنشَاهُ خُوشِ حِصَانِ، مِيكَرُ حَسَنِ وَجْهَالِ، دَارِ فِجِ رَنْجِ وَمَلَالِ، رَسُولِ بِي مَالِ، بِي بِي آمَنَهُ كَالِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا مجھے اپنے اسلام میں کئے گئے سب سے زیادہ امید دلانے والے عمل کے بارے میں بتاؤ، کیونکہ میں نے جنت میں اپنے آگے تمہارے جو توں کی آواز سنی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، میں نے اتنا امید دلانے والا عمل تو کوئی نہیں کیا، البتہ میں دن اور رات کی جس گھڑی میں بھی وضو کرتا ہوں تو جتنی رکعتیں ہو سکتی ہیں نماز ادا کر لیتا ہوں۔

(صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب فضل الطہور باللیل والنہار الخ، رقم 1149، ج 1، ص 390)

أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عَثْمَانَ غَنِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ ایک

مرتبہ آپ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے وضو کیا پھر فرمایا کہ میں نے تاجدار رسالت، شهنشاه نبوت، مخزن

والی نماز ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب الصیام، باب فضل صوم المحرم، رقم 1163، ص 591)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ نبی مُكْرَمٌ، نُورِ مُجَسَّمٌ، رسول اکرم، شہنشاہ بنی آدم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص سو جاتا ہے تو شیطان اس کے سر کے پچھلے حصے پر تین گرہیں لگا دیتا ہے، وہ ہر گرہ پر کہتا ہے کہ لمبی تان کے سو جا، ابھی تو بہت رات باقی ہے۔ جب وہ شخص بیدار ہو کر اللہ تَعَالَى جَلَّ جَلَّالُہٗ وَاکْبَرُ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے پھر اگر وہ وضو کرے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے اور اگر نماز ادا کرے تو تیسری بھی کھل جاتی ہے اور وہ شخص تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے، بصورت دیگر تھکا ماندہ سست ہو کر صبح کرتا ہے۔ ایک روایت میں یہ اضافہ ہے، تو وہ تازہ دم ہو کر صبح کرتا ہے اور خیر کو پالیتا ہے بصورت دیگر تھکا ماندہ صبح کرتا ہے اور خیر کو نہیں پاتا۔ جبکہ ایک روایت میں ہے لہذا شیطان کی گانٹھوں کو کھول لیا کرو اگر چہ دو رکعتوں کے ذریعے ہی سے ہو۔

(صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب عقد الشیطان علی قافیۃ الراس الخ، رقم 1142، ج 1، ص 387)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عُبَيْدِ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں نے شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ، باعثِ نُزُولِ سَکینہ، فیضِ گنجینہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت میں سے جو شخص رات کو بیدار ہو کر اپنے نفس کو طہارت کی طرف مائل کرتا ہے حالانکہ اس پر شیطان گرہیں لگا چکا ہوتا ہے تو جب وہ اپنے ہاتھ دھوتا ہے تو ایک گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو دوسری گرہ کھل جاتی ہے، جب وہ اپنے سر کا مسح کرتا ہے تو تیسری گرہ کھل جاتی ہے جب وہ اپنے پاؤں دھوتا ہے تو چوتھی گرہ کھل جاتی ہے تو اللہ تَعَالَى جَلَّ جَلَّالُہٗ وَاکْبَرُ حجاب کے پیچھے موجود فرشتوں سے فرماتا ہے کہ میرے اس بندے کو دیکھو جو اپنے نفس کو مجھ سے سوال کرنے پر مائل کرتا ہے، یہ بندہ مجھ سے جو کچھ مانگے گا وہ اسے عطا کر دیا جائے گا۔

(الاحسان بترتیب صحیح ابن حبان، کتاب الطہارۃ، باب فضل الوضوء، رقم 1149، ج 2، ص 194)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحرو بر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو فرماتے ہوئے

جود و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت، محبوبِ رَبِّ العزت، محسنِ انسانیت صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو اسی طرح وضو کرتے ہوئے دیکھا، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو میری طرح وضو کرے پھر دو رکعتیں پڑھے اور ان میں کوئی غلطی نہ کرے تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔

(صحیح بخاری، کتاب الوضوء، باب الوضوء ثلاثا ثلاثا، رقم 159، ج 1، ص 78)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو دَرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ نے فرمایا کہ میں نے سرکارِ الاتبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیعِ روزِ شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیبِ پروردگار صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو فرماتے ہوئے سنا، جس نے احسن طریقے سے وضو کیا پھر اٹھ کر دو یا چار رکعتیں پڑھیں اور ان کے رکوع و سجود، خشوع کے ساتھ ادا کئے پھر اللہ تَعَالَى جَلَّ جَلَّالُہٗ وَاکْبَرُ سے مغفرت طلب کی تو اللہ تَعَالَى جَلَّ جَلَّالُہٗ وَاکْبَرُ اس کی مغفرت فرمادے گا۔

﴿ فضیلتِ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ ﴾

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضورِ اقدس صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فرماتے ہیں: جو شخص مسجد میں داخل ہو، بیٹھنے سے پہلے دو رکعت پڑھے۔

(صحیح البخاری، کتاب الصلاة، باب اذا دخل المسجد۔ الخ، الحدیث: 444 ج 1، ص 170)

جو شخص مسجد میں آئے اُسے دو رکعت نماز پڑھنا سنت ہے بلکہ بہتر یہ ہے کہ چار پڑھے، اگر ایسے وقت مسجد میں آیا جس میں نفل نماز مکروہ ہے مثلاً بعد طلوع فجر یا بعد نماز عصر تو وہ تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ نہ پڑھے بلکہ تَسْبِيحِ وَتَهْلِيلِ وَذُرُودِ شَرِيفِ میں مشغول ہو، حق مسجد ادا ہو جائے گا۔

(ردالمحتار، کتاب الصلاة، باب الترتیب والنوافل، مطلب فی تَحِيَّةِ الْمَسْجِدِ، ج 2، ص 555)

﴿ تَهَجُّدِ اور رات میں نماز پڑھنے کا ثواب ﴾

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ سرورِ معصوم، حسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، محبوبِ رَبِّ اکبر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا! رمضان کے بعد سب سے افضل روزے اللہ تَعَالَى جَلَّ جَلَّالُہٗ وَاکْبَرُ کے مہینے محرم کے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات میں پڑھی جانے

﴿ تَحِيَّةُ الْوُضُو ﴾

((صحیح صادق سے 20 منٹ قبل یہ اعلان کیجئے))

اللَّهُمَّ عَزَّوَجَلَّ کی رضایانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 20 کے جُز تَحِيَّةُ الْوُضُو کے

نفل ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

﴿ تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ ﴾

((اب اس طرح اعلان کیجئے))

اللَّهُمَّ عَزَّوَجَلَّ کی رضایانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 20 کے جُز تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ

کے نفل ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

﴿ تَهْجُدُ ﴾

((اب اس طرح اعلان کیجئے))

اللَّهُمَّ عَزَّوَجَلَّ کی رضایانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 19 کے جُز تَهْجُدُ کے نفل

ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

﴿ دُعَا كَيْ مَدْنِي پَهول ﴾

((مناجات (دعا) کے بعد سحری کا وقت کم از کم ایک گھنٹہ ہونا چاہئے، کوشش کیجئے کہ کوئی خوش الحان نعت خواں اسلامی بھائی مناجات پڑھیں مناجات

10 منٹ سے زائد نہ ہوں، مناجات مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب ”وسائل بخشش“ سے ہی کی جائیں))

((اب اس طرح اعلان کیجئے))

اللَّهُمَّ عَزَّوَجَلَّ کی رضایانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 44 پر عمل کرتے ہوئے خشوع

و خضوع کے ساتھ دعا مانگنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

((پھر دعا میں ہاتھ اٹھانے کے آداب بھی بتائیں))

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! دعا عبادت کا مغز ہے۔ دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ دعا میں ہتھیلیوں کا رخ

سنا، بے شک رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس گھڑی میں مسلمان بندہ جب اللہ عزوجل سے دنیا و آخرت کی کوئی بھلائی طلب کرتا ہے تو اللہ عزوجل اسے وہ بھلائی ضرور عطا فرماتا ہے اور یہ ساعت ہر رات

میں ہوتی ہے۔ (صحیح مسلم، کتاب صلوة المسافرین وقصرها، باب فی اللیل ساعة مستجاب فیها الدعاء، رقم 757، ص 380)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ جب حضور پاک،

صاحبِ لَوْلَاک، سیاحِ افلاک صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ مَدِينَةَ مَنُورِهِ (زَادَهَا اللَّهُ شَرَفًا وَتَعْظِيمًا) تشریف

لائے تو لوگ جُوقِ دَرَجُوقِ حُضُورِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کی بارگاہ میں حاضر ہونے لگے۔ میں بھی ان

لوگوں میں شامل تھا۔ جب میں نے آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے چہرہ مبارک کو غور سے

دیکھا اور آپ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے بارے میں چھان بین کی تو جان لیا کہ یہ کسی جھوٹے کا چہرہ

نہیں اور پہلی بات جو میں نے رسول اکرم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ سے سنی وہ یہ تھی کہ اے لوگو! سلام کو عام کرو

اور محتاجوں کو کھانا کھلایا کرو اور صلہ رحمی اختیار کرو اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھا کرو، جنت

میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ گے۔ (سنن ترمذی، کتاب صفة القيامة، باب 42، رقم 2493، ج 4، ص 219)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو مَالِكٍ اشْعَرِي رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ نبی مُکْرَمٌ، نُورِ

مُجَسِّم، رسولِ اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا، بے شک جنت میں کچھ

ایسے محلات ہیں جن میں آ رہا نظر آتا ہے، اللہ عزوجل نے وہ محلات ان لوگوں کیلئے تیار کئے ہیں جو محتاجوں کو

کھانا کھلاتے ہیں، سلام کو عام کرتے اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھتے ہیں۔

(صحیح ابن حبان، کتاب البر والاحسان، باب افشاء السلام واطعام الطعام، رقم 509، ج 1، ص 363)

﴿ نوافل ﴾

((نوافل میں قرأت درمیانی رفتار میں ہو، زیادہ تیز نیز نہ پڑھا جائے اور نہ ہی بالکل آہستہ پڑھیے، خوش الحانی سے پڑھیے، سورۃ الفاتحہ کے بعد سورہ

اخلاص پڑھی جائے (تہجد کے نوافل کی جماعت ہونے کی صورت میں ایسے اسلامی بھائی کا درست بخارج اور درست قرأت والا ہونا ضروری ہے ورنہ

امامت کی اجازت ہرگز نہ دی جائے)، ہر وقت اس بات کا خیال رکھیے کہ ہمیں جدول پر دیئے گئے وقت پر نظر رکھتے ہوئے آگے بڑھتے جانا ہے

چاہے کسی حلقے میں اسلامی بھائیوں کی تعداد پوری ہو یا کم ہمیں وقت کو مد نظر رکھنا ہے)) (وقت 10 منٹ)

یا الہی کر ایسی عنایت دیدے ایمان پر استقامت
تجھ سے عطا کی التجا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے

﴿ دُعَا ﴾

« اب اس طرح دعا شروع کیجئے »

اپنے رحمت والے پروردگار عَزَّوَجَلَّ کے دربارِ گہر بار میں اس یقینِ محکم کے ساتھ کہ آپ کی دعا

قبول ہو رہی ہے، اس طرح عرض کیجئے: **يَا اَللّٰهُ، يَا رَحْمٰنُ يَا رَحِيْمُ**

تیرے کروڑ ہا کروڑ احسان کہ تُو نے مجھے انسان بنایا، مسلمان کیا اور میرے ہاتھوں میں دامنِ رحمت

عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم عطا فرمایا۔ یا اللہ عَزَّوَجَلَّ! اے محمد عَزَّوَجَلَّ! نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے خالق عَزَّوَجَلَّ! میں

کس زبان سے تیرا شکر ادا کروں کہ تُو نے مجھے اعتکاف کا شرف بخشا۔

یا ربِّ مصطفےٰ عَزَّوَجَلَّ! میری کمزوری اور ناتوانی تجھ پر آشکار ہے، آہ! میں تو وہ کمزور بندہ ہوں کہ نہ

گرمی برداشت کر سکتا ہوں نہ سردی، مجھ میں کھٹل، چمچر کے ڈنک کی بھی سہارا نہیں حتیٰ کہ اگر چوٹی بھی کاٹ

لے تو بے چین ہو جاتا ہوں، آہ! اگر کوئی پروں والا معمولی سا کیڑا کیڑوں میں گھس کر پڑ پھڑاتا ہے تو

مجھے اُچھال کر رکھ دیتا ہے، آہ! ہائے میری بربادی! اگر گناہوں کے سبب مجھے قبر میں تیرے قہر و غضب کی

آگ نے گھیر لیا تو میں کیا کروں گا! آہ! اگر میرے کفن میں سانپ اور بچھو گھس گئے تو میرا کیا بنے گا! اے

ربِّ محمد عَزَّوَجَلَّ! بٹھیل محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم اکرمِ کردے، مجھے نوع و قبر و حشر کی تکلیفوں سے بچالے، یقیناً

تیرے کرم کی فقط ایک نظر ہو جائے تو مجھ پاپی و بدکار کے دونوں جہاں سنور جائیں، اے ربِّ محبوب

عَزَّوَجَلَّ! مجھ پر اپنا فضل و احسان فرما اور مجھ سے ہمیشہ ہمیشہ کیلئے راضی ہو جا اور مجھے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے۔

اے میرے مکی مدنی محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم کے معبود عَزَّوَجَلَّ! اگرچہ میں نے گناہوں سے

آسمان کی جانب ہو اور ہتھیلیاں اتنی بلند ہوں کہ سینے کی سیدھ میں یا کندھوں کی سیدھ میں یا اتنی بلند ہوں
کہ بغلوں کی سفیدی نظر آئے۔ بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اپنے ہاتھوں کو اٹھا لیجئے، ندامت

سے سروں کو جھکا لیجئے، گناہوں کو یاد کیجئے اور رور و کر اللہ عزوجل کی بارگاہ میں مناجات کیجئے۔

﴿ مناجات ﴾

درج ذیل مناجات کے علاوہ دیگر مناجات کی ترکیب بھی کی جاسکتی ہے۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

سر ہے	خم ہاتھ میرا اٹھا ہے	یا خدا	تجھ سے میری دعا ہے
فصل کی	رحم کی التجا ہے	یا خدا	تجھ سے میری دعا ہے
قلب میں	یاد لب پر ثنا ہے	میرے	ہر درد کی یہ دعا ہے
کون دُکھیوں	کا تیرے سوا ہے	یا خدا	تجھ سے میری دعا ہے
قلب سختی	میں حد سے بڑھا ہے	طالب	ترے خوف کا ہے
التجائے	غم مصطفےٰ ہے	یا خدا	تجھ سے میری دعا ہے
حُب دُنیا میں	دل پھنس گیا ہے	نفسِ	بدکار حاوی ہوا ہے
ہائے شیطان	بھی پیچھے پڑا ہے	یا خدا	تجھ سے میری دعا ہے
آہ! بندہ دُکھوں	میں گھرا ہے	اس کو	تیرا ہی بس آسرا ہے
التجائے	کرم یا خدا ہے	یا خدا	تجھ سے میری دعا ہے
ہر گنہ سے	بچا مجھ کو مولیٰ	نیک	نصلت بنا مجھ کو مولیٰ
تجھ کو رمضان	کا واسطہ ہے	یا خدا	تجھ سے میری دعا ہے
ہوں بظاہر	بڑا نیک صورت	کر بھی	دے مجھ کو اب نیک سیرت
ظاہر اچھا	ہے باطن بُرا ہے	یا خدا	تجھ سے میری دعا ہے

﴿ نماز فجر ﴾

﴿ تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴾

﴿ نماز کے بعد امام صاحب دُعا کروائیں گے۔ دُعا کے بعد یوں اعلان فرمائیں ﴾

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 3 پر عمل کرتے ہوئے ایک بار آیتہ
الْكَرْسِيِّ، تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اور سُورَةُ الْإِخْلَاصِ پڑھ لیجئے۔ (وقت 3 منٹ)

﴿ تلاوت قرآن ﴾

﴿ اب اس طرح اعلان کیجئے ﴾ (وقت 20 منٹ)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 70 پر عمل کرتے ہوئے قرآن
کریم کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)
اب پہلی صف والے اسلامی بھائی دوسری صف والوں کی طرف اور تیسری صف والے چوتھی صف
والوں کی طرف رخ فرمائیں۔ اور اس بات کا خیال رکھیں کہ قرآن پڑھتے وقت آواز اتنی ہو کہ اپنے کان سُن
لیں اور جو اسلامی بھائی اس دوران مدنی قاعدے کا سبق دوہرانا چاہیں وہ دوہرائیں۔

﴿ اس کے بعد خیر خواہ اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ قرآن پاک تقسیم کرنے کی ترکیب شروع فرمادیں، یاد رہے تعداد کے اعتبار
سے اسلامی بھائی قرآن پاک تقسیم کرنے کیلئے مقرر کرنے ہیں، اگر معتقدین زیادہ ہیں تو قرآن پاک تقسیم کرنے والے اسلامی بھائی بھی زیادہ
ہوں تاکہ سب اسلامی بھائیوں کو وقت پر قرآن پاک ملیں۔ ﴾

﴿ شجرہ شریف کے اوراد ﴾

﴿ اب اس طرح اعلان کیجئے ﴾ (وقت 10 منٹ)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 5 کے جُو پر عمل کرتے ہوئے

زمین و آسمان بھر دیئے ہیں مگر پھر بھی مجھے تیری رحمت پر ناز ہے، الہی عَزَّوَجَلَّ! میرے غوثِ اعظم رحمۃ اللہ
تعالیٰ علیہ میرے غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور میرے امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا اور
میرے مُرہِدِ کریم کا واسطہ میری بے حساب مغفرت فرما، میری بے حساب مغفرت فرما، میری بے حساب
مغفرت فرما۔

﴿ وقفہ برائے سحری ﴾

﴿ اب اس طرح اعلان کیجئے ﴾

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 36 پر عمل کرتے ہوئے نگاہیں
جُھکا کر چلنے کی مشق کے ساتھ کھانے کا وضو کریں گے (إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) اور مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے
ہوئے اچھی اچھی نیتیں کریں گے (إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) اور مدنی انعام نمبر 11 پر عمل کرتے ہوئے پردے
میں پردہ کر کے بیٹھنے اور مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کھانے (سحری)
کے بعد نماز فجر کی تیاری کی ترکیب ہوگی اور مدنی انعام نمبر 4 پر عمل کرتے ہوئے اذان و اقامت کا جواب
دے کر مدنی انعام نمبر 18 پر عمل کرتے ہوئے سُنَّتِ قَبْلِيَّہ اور مدنی انعام نمبر 2 پر عمل کرتے ہوئے نماز فجر
باجاماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کریں گے۔ (إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

﴿ کھانے کا وضو کرنے کے دوران ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھونے کا ذہن دیجئے، کھانے سے پہلے نیتیں کروائیں اور ہمیشہ
کھانے سے پہلے نیتیں کرنے کا ذہن بھی دیں، کھانے کی دعا پڑھائیں، لقمہ توڑنے کا طریقہ اور اس کا سائز کتنا ہو یہ بتائیں، ربڑ بینڈ پینے کی
حکمت بتائیں، تین انگلیوں سے کھانے کا ذہن دیں، سنت کے مطابق پیٹھ پر کھانے کا ذہن دیں، اس دوران موقع کی مناسبت سے ایک اسلامی
بھائی کلام بھی سناتے رہیں، آخر میں برتن صاف کر کے ترغیب کی نیت سے دکھانے کی ترکیب ہو، برتن اور کپ وغیرہ دھو کر پینے کی ترغیب دلائی
جائے، دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے کی ترغیب دلائی جائے، بگراں اسلامی بھائی ہر بار کھانے میں کسی ایک حلقے میں حاضری
دیں، بہتر یہ ہے کہ جس حلقے میں کمزوری ہے اس میں بیٹھیں اور مسکراتے مسکراتے کمزوری کا حل فرمادیں، کھانے کے بعد کی دعائیں
پڑھائیں، آخر میں سورہ اخلاص اور سورہ قریش پڑھنے کی ترکیب بتائیں ﴾

پن، جذام، برص (کوڑھ) اور ناپینا ہونے سے بچے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔

﴿سُبْحَانَ اللَّهِ الْعَظِيمِ وَبِحَمْدِهِ﴾

6 ﴿جو کوئی صبح گیارہ بار سُورۂ اِخْلَاص پڑھے (اگر شیطان مع اپنے لشکر کوشش کرے کہ اس سے گناہ کرائے نہ کرا سکے جب تک یہ خود نہ کرے) تمام اسلامی بھائی اپنے اپنے طور پر گیارہ (11) بار سُورۂ اِخْلَاص پڑھ لیجئے۔

﴿مدنی حلقہ﴾

((ترجمہ کنز الایمان و تفسیر خزائن العرفان / نور العرفان / صراط الجنان، چار صفحات فیضان سنت، شجرہ شریف))

﴿3 آیات ترجمہ و تفسیر﴾

((3 آیات ترجمہ و تفسیر مدنی درس والے انداز میں شروع کریں۔ پہلے خطبہ پڑھیں، پھر درود پاک کے صیغہ پڑھیں اور درود پاک کی ایک

فضیلت بیان کریں))

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 21 پر عمل کرتے ہوئے تین

آیات (مع ترجمہ و تفسیر) سُننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

((اگر مگر ان اعتکاف کسی اور کی ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی ذمہ داری لگائیں تو ترجمہ و تفسیر پڑھنے کا درست انداز سن لیں))

﴿جدول﴾

دن	پارہ	سورة	آیت
1	1	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	64 تا 66
2	1	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	67 تا 70
3	1	سُورَةُ الْبَقَرَةِ	71 تا 75
4	6	سُورَةُ الْمَائِدَةِ	27 تا 31
5	9	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	133 تا 136

کچھ نہ کچھ شَجَرۂ شَرِيف کے اُوراد پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

((اب یہ اوراد پڑھائیں))

1 ﴿جو کوئی ﴿اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ﴾ تین، تین بار پڑھے کر سُورَةُ الْحَشْرِ کی آخری 3 آیتیں صبح پڑھے تو شام تک 70 ہزار فرشتے اُس کے لیے اِسْتِغْفَار کریں اور اُس دِن مرے تو شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صبح تک یہی فضیلت۔

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! میں پڑھتا ہوں آپ توجہ سے سُنئے

اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (3 بار)

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ط

هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ عَلِیْمُ الْغَیْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِیْمُ ۗ هُوَ اللّٰهُ الَّذِیْ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ ۚ الْعَلِیْمُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهِیْمُنُ الْعَزِیْزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا یُشْرِكُوْنَ ۗ هُوَ اللّٰهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْاَسْمَاءُ الْحُسْنٰی ۚ یُسَبِّحُ لَهُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَ الْاَرْضِ ۗ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْحَكِیْمُ ۝

2 ﴿اب جو ورد پڑھایا جائے گا، اس کی فضیلت میں آتا ہے۔ جو کوئی تین، تین بار پڑھے اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔

﴿اللّٰهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ﴾

3 ﴿اب جو ورد پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے جو کوئی تین، تین بار پڑھے، پڑھنے والے کے دین، ایمان، جان، مال بچے سب محفوظ رہیں (اِنْ شَاءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ) آپ بھی پڑھ لیجئے۔

﴿بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی دِیْنِیْ بِسْمِ اللّٰهِ عَلٰی نَفْسِیْ وَوَلَدِیْ وَاهْلِیْ وَمَالِیْ﴾

4 ﴿اب جو ورد پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے جو کوئی تین، تین بار پڑھے سانپ، بچھو وغیرہ موزیات سے پناہ حاصل ہو۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔

﴿اَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللّٰهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ﴾

5 ﴿اب جو ورد پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے جو کوئی تین، تین بار پڑھے جُون (پاگل

//	(ص 132 تا 138)	29 مدنی پھول	8
//	(ص 139 تا 144)	لکڑہارا کیسے مالدار بنا؟	9
//	(ص 157 تا 163)	فرعون کا محل	10

﴿ شجرہ شریف ﴾

﴿ منظوم شجرہ شریف پڑھنے سے پہلے اشراق و چاشت کا وقت بھی معلوم کر لیجئے اور اسی حساب سے آگے جدول چلائیے ﴾

﴿ اس کے بعدیوں اعلان فرمائیں ﴾

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! ابھی ان شاء اللہ عزوجل منظوم شجرہ عالیہ قادر یہ رضویہ پڑھا جائے گا، تمام

اسلامی بھائی شجرہ شریف نکال لیجئے۔

﴿ دعائیں سیکھنے سکھانے کا حلقہ ﴾

﴿ ”مدنی پنچ سورہ“ نماز کے احکام سے مندرجہ ذیل دعائیں سیکھنے سکھانے کی ترکیب ہو ﴾ (وقت 20 منٹ)

#	دعا	حوالہ
1	دُعائے مصطفیٰ	مدنی پنچ سورہ ص 203
2	سوتے وقت کی دعا	مدنی پنچ سورہ ص 203
3	بیدار ہونے کے بعد کی دعا	مدنی پنچ سورہ ص 203
4	بیت الخلا میں داخل ہونے سے پہلے کی دعا	مدنی پنچ سورہ ص 204
5	بیت الخلا سے باہر آنے کے بعد کی دعا	مدنی پنچ سورہ ص 204
6	گھر میں داخل ہوتے وقت کی دعا	مدنی پنچ سورہ ص 204
7	گھر سے نکلتے وقت کی دعا	مدنی پنچ سورہ ص 205

175 تا 177	سُورَةُ الْأَعْرَافِ	9	6
93 تا 96	سُورَةُ يُوسُفَ	13	7
9 تا 13	سُورَةُ الْكَهْفِ	15	8
139 تا 148	سُورَةُ الصَّفَاتِ	23	9
36 تا 40	سُورَةُ النَّمْلِ	19	10

﴿ 4 صفحات فیضان سنت ﴾

﴿ اس کے بعدیوں اعلان فرمائیں ﴾

اللہ عزوجل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 14 کے ایک جزو فیضان سنت

کے ترتیب وار کم از کم 4 صفحات پڑھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (ان شاء اللہ عزوجل)

﴿ چار صفحات پڑھتے وقت انداز درمیانہ ہو اور پہلے سے اس کی تیاری ہو اور آخر میں درس کے بعد والی ترغیب بھی دلائیں ﴾

#	موضوع	حوالہ	فیضان سنت کا باب
1	5 خصوصی کرم	(ص 854 تا 859)	فیضان رمضان
2	ہر شب 60 ہزار کی بخشش	(ص 867 تا 872)	//
3	سال بھر کی نیکیاں برباد	(ص 916 تا 922)	//
4	افطار کے 11 فضائل	(ص 1011 تا 1018)	//
5	تراویح کے 35 مدنی پھول	(ص 1116 تا 1123)	//
6	خونفک زہر	(ص 32 تا 37)	فیضان بسم اللہ
7	بچے کی مدنی تربیت کی حکایت	(ص 56 تا 62)	//

حضرت، صدر شریعت، قطبِ مدینہ، صدر الافاضل، امام غزالی، مفتی احمد یار خان، سیدی قطبِ مدینہ، مفتی دعوتِ اسلامی، حاجی مشتاق، حاجی فاروق، حاجی زمزم رضا۔ تمام مبلغات و مبلغین و مرحومین۔

اے اللہ عزوجل ہم سب کے رزق میں، کاروبار میں، اولاد میں، گھربار میں خیر و برکتیں نازل فرما۔ ہر قسم کی بلاؤں، پریشانیوں، مصیبتوں، آزمائشوں، جادوؤں سے ہم سب کو ہمارے گھربار کو محفوظ فرما۔ اپنا فضل و کرم ہم سب کے شامل حال فرما۔ تمام عالمِ اسلام کی خیر فرما۔ اسلام کا بول بالا کرو اور دشمنانِ اسلام کا منہ کالا کر۔ امیر اہلسنت، مرکزی مجلسِ شوریٰ اور دعوتِ اسلامی کے تمام مبلغین و مبلغات کی حفاظت فرما۔ ہماری تمام دعائیں خاکِ مدینہ کے صدقے قبول فرما۔

کہتے رہتے ہیں دُعا کے واسطے بندے تیرے
کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی

جب دم واپسی ہو یا اللہ آنکھوں کے سامنے ہو جلوہ مصطفیٰ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ اور لب پہ ہوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

﴿ نمازِ اشراق و چاشت ﴾

﴿ دُعا کے بعد یوں اعلان کیجئے ﴾

اللَّهُمَّ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 19 کے دو جُز، اشراق و چاشت کے نفل ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ)

﴿ اب اشراق و چاشت کی ایک ایک فضیلت بھی بیان فرمائیں ﴾

﴿ فضیلتِ نمازِ اشراق ﴾

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا نَاسُ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ سرکارِ مدینہ، سلطانِ باقرینہ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ارشاد فرماتے ہیں: جو فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر بیٹھا ذکرِ خدا کرتا رہا،

8	کھانا کھانے سے پہلے کی دعا	مدنی پنج سورہ ص 205
9	جو دعائیں سیکھی ہیں اُن کی دُہرائی	
10	کھانے کے بعد کی دعا	مدنی پنج سورہ ص 206

﴿ فاتحہ کا سلسلہ ﴾

﴿ شجرہ شریف پڑھنے کے بعد فاتحہ کا سلسلہ ہوگا ﴾

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اب اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ فاتحہ کا سلسلہ ہوگا، تمام اسلامی بھائی شجرہ شریف کا صفحہ نمبر 23 کھول لیجئے۔۔۔ اب 7 بار دُرُودِ غَوْنِيَّةِ پڑھیے۔۔۔ دُرُودِ غَوْنِيَّةِ شجرہ شریف کے صفحہ نمبر 25 پر ہے۔۔۔ ایک بار سُورَةُ الْفَاتِحَةِ پڑھیے۔۔۔ ایک بار آيَةُ الْكُرْسِيِّ پڑھیے۔۔۔ 7 بار سُورَةُ الْاِحْلَاصِ پڑھیے۔۔۔ اب آخر میں تین بار دُرُودِ غَوْنِيَّةِ پڑھیے۔۔۔

﴿ ایصالِ ثواب و دُعا ﴾

﴿ اب ایصالِ ثواب و دُعا کیجئے ﴾

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

يَا اَللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ اب تک میرے پاس موجود نیکیوں اور جو مجھے اپنی نیکیاں ایصال کریں، ان سب کا ثواب اپنے کرم کے شایانِ شان عطا فرما۔ یا اللہ یہ سارا ثواب ہماری طرف سے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرما، بوسیلتہ رحمۃ اللعلمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان ان کو پہنچا، جملہ انبیاء و مرسلین، خلفائے راشدین، اُمہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، آئمہ مجتہدین، علمائے کالمین، مشائخ عالمین، تمام مفسرین، محدثین، جملہ بزرگانِ دین، کل مومنات و مومنین، مسلمات و مسلمین، خصوصاً بالخصوص سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام، سیدنا اسماعیل ذبیح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلوٰۃ والسلام، سیدنا ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، والدینِ مصطفیٰ، شہیدان و اسیرانِ کربلا، جمیع اہلبیتِ اطہار، امام اعظم، غوث اعظم، غریب نواز، اعلیٰ

یہاں تک کہ آفتاب بلند ہو گیا پھر دو رکعتیں پڑھیں تو اُسے پورے حج اور عمرہ کا ثواب ملے گا۔

(سنن الترمذی، کتاب السفر، باب ما ذکر مما يستحب من الجلوس فی المسجد۔ الخ، الحدیث: 586 ج 2، ص 100)

﴿ فضیلتِ نمازِ چاشت ﴾

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو ذُرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ تاجدارِ رسالت، شہنشاہِ نبوت، مَخْزَنِ جود و سخاوت، پیکرِ عظمت و شرافت، مَحْبُوبِ رَبِّ الْعِزَّةِ، مَحْسِنِ انسانیّتِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا، تمہارے ہر جوڑ پر صدقہ ہے اور ہر تسبیح یعنی سُبْحَانَ اللَّهِ کہنا صدقہ ہے اور ہر تحمید یعنی الْحَمْدُ لِلَّهِ کہنا صدقہ ہے اور ہر تہلیل یعنی لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ کہنا صدقہ ہے اور ہر تکبیر یعنی اللَّهُ أَكْبَرُ کہنا صدقہ ہے اور اچھی بات کا حکم دینا صدقہ ہے اور بری بات سے روکنا صدقہ ہے اور چاشت کی دو رکعتیں ان سب کو کفایت کرتی ہیں۔

(صحیح مسلم، کتاب صلوة المسافرین وقصرها، باب استحباب صلوة الضحی۔ الخ، رقم 8201، ص 363)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا بُرَيْدَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ میں نے نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحرو بر صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو فرماتے ہوئے سنا، آدمی کے تین سوساٹھ (360) جوڑ ہوتے ہیں، اسے ہر جوڑ کا صدقہ ادا کرنا لازم ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، اس کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ فرمایا، مسجد میں پڑی ہوئی ریٹھ کو دفن کر دینا اور راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا صدقہ ہے، اگر تم اس پر قدرت نہ رکھو تو چاشت کی دو رکعتیں تمہاری طرف سے کفایت کریں گی۔ (مسند احمد حدیث بریدہ الاسلمی، رقم 23059، ج 9، ص 20)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ سرکارِ والا تبار، ہم بے کسوں کے مددگار، شفیعِ روزِ شمار، دو عالم کے مالک و مختار، حبیبِ پروردگار صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے مجھے تین چیزوں کی وصیت فرمائی، لہذا میں انہیں ہرگز نہیں چھوڑتا (۱) میں وتر ادا کئے بغیر نہ سوؤں (۲) میں چاشت کی دو رکعتیں ترک نہ کروں کیونکہ یہ ”تو اپن“ یعنی کثرت سے توبہ کرنے والوں کی

نماز ہے (۳) اور ہر مہینے تین دن روزے رکھا کروں۔

(صحیح بخاری، کتاب التہجد، باب صلوة الضحی فی الحضر، رقم 1178، ج 1، ص 397)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا مُعَاذُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ آقائے مظلوم، سرورِ معصوم، حُسنِ اخلاق کے پیکر، نبیوں کے تاجور، مَحْبُوبِ رَبِّ اكْبَرِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا، جو شخص فجر کی نماز کے بعد چاشت کی دو رکعتیں ادا کرنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے اور خیر کے علاوہ کوئی بات نہ کہے، اس کی خطائیں معاف کر دی جاتی ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں۔

(مسند احمد، مسند المکین / حدیث معاذ بن آنس الجہنی، رقم 15623، ج 5، ص 260)

أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ سَيِّدَةُ عَائِشَةُ صَدِيقَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا فرماتی ہیں کہ میں نے نبی مُكْرَمًا، نُورِ مُجَسَّم، رسولِ اکرم، شہنشاہِ بنی آدم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کو فرماتے ہوئے سنا، جو فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد چاشت کی چار رکعتیں ادا کرنے تک اپنی جگہ بیٹھا رہے اور کوئی لغو بات نہ کہے بلکہ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيَّ وَعَلَىٰ آلِيَّ کا ذکر کرتا رہے تو اپنے گناہوں سے ایسے نکل جائے گا جیسے اس دن تھا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ (مسند ابی یعلیٰ، رقم 48، ج 4، ص 9)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عَاصٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ شہنشاہِ مدینہ، قرارِ قلب و سینہ، صاحبِ معطرِ پسینہ، فیضِ گنجینہ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے ایک لشکر کو نجد کی جانب بھیجا وہ لشکر بہت سا مالِ غنیمت لے کر جلد لوٹ آیا تو لوگ لشکر کے مقام کی نزدیکی، کثرتِ مالِ غنیمت اور جلد لوٹ آنے کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ نبی کریم صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کیا میں تمہیں ایک ایسی قوم کے بارے میں نہ بتاؤں جو ان سے بھی قریب جہاد کرنے والی اس سے بھی زیادہ مالِ غنیمت حاصل کرنے والی اور جلدی لوٹنے والی ہے۔ (پھر فرمایا)، جو شخص وضو کرے پھر نمازِ چاشت ادا کرنے کیلئے مسجد میں حاضر ہو، وہ ان لوگوں سے بھی قریب، زیادہ غنیمت لانے والا اور جلدی لوٹنے والا ہے۔ (مسند احمد، مسند عبد اللہ بن عمرو بن العاص، رقم 6649، ج 2، ص 588)

میں داخل ہوگا۔ (طبرانی کبیر، رقم 7790، ج 8، ص 192)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحرو برِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا، جو اپنے گھر سے کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لئے نکلا، اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے اور جو چاشت کی نماز ادا کرنے کے لئے نکلا اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس طرح انتظار کرنا کہ بیچ میں لغوبات نہ کی جائے تو اس کا نام عَلِيَّيْنِ (یعنی اعلیٰ درجے والوں) میں لکھا جاتا ہے۔

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ شہنشاہِ خوشِ خصال، پیکرِ حُسن و جمال، دافعِ رنج و ملال، صاحبِ جُود و نوال، رسولِ برے مثال، بی بی آمنہ کے لالِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا، بیشک جنت میں ایک دروازہ ہے جسے سُنَّی کہا جاتا ہے، جب قیامت کا دن آئے گا تو ایک منادی ندا کرے گا، نمازِ چاشت کی پابندی کرنے والے کہاں ہیں؟ یہ تمہارا دروازہ ہے اس میں داخل ہو جاؤ۔ (طبرانی اوسط، رقم 5060، ج 4، ص 18)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو دُرْدَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ نور کے پیکر، تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحرو برِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا، جو شروع دن میں چاشت کی دو رکعتیں ادا کرے گا، غافلین میں نہ لکھا جائے گا اور جو چار رکعتیں ادا کرے گا اس کا شمار عابدین میں ہوگا اور جو چھ رکعتیں ادا کرے گا وہ اس کے لئے کافی ہوں گی جو آٹھ رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اسے تائین یعنی قیام کرنے والوں میں لکھے گا اور جو بارہ رکعتیں ادا کرے گا اللہ عَزَّوَجَلَّ اس کیلئے جنت میں ایک گھر بنائے گا اور ہر دن اور ہر رات میں اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندوں پر ایک احسان اور ایک صدقہ فرماتا ہے اور اللہ عَزَّوَجَلَّ اپنے بندوں میں کسی پر اپنے ذکر کے الہام سے افضل کوئی احسان نہیں فرماتا۔ (مجمع الزوائد، کتاب الصلوٰۃ، رقم 3419، ج 2، ص 494)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ تمام نبیوں کے سرور، دو جہاں کے تاجور، سلطانِ بحرو برِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا، جو اپنے گھر سے کسی فرض نماز کی ادائیگی کے لئے نکلا، اس کا ثواب احرام باندھنے والے حاجی کی طرح ہے اور جو چاشت کی نماز ادا کرنے کے لئے نکلا اس کا ثواب عمرہ کرنے والے کی طرح ہے اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا اس طرح انتظار کرنا کہ بیچ میں لغوبات نہ کی جائے تو اس کا نام عَلِيَّيْنِ (یعنی اعلیٰ درجے والوں) میں لکھا جاتا ہے۔ (سنن ابی داؤد، کتاب التطوع، باب صلوة الضحیٰ، رقم 1688، ج 2، ص 41)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ حضورِ پاک، صاحبِ کولاک، سیاحِ افلاکِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا، جو چاشت کی دو رکعتیں پابندی سے ادا کرتا ہے اس کے گناہ معاف کر دیئے جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ (سنن ابن ماجہ، کتاب امامۃ الصلوٰۃ والسنۃ فیہا، باب ماجاء فی صلوة الضحیٰ، رقم 1382، ج 2، ص 153)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا عَقْبَةُ بْنُ عَامِرٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فرماتے ہیں کہ میں سَيِّدُ الْمَبْلَغِيْنَ، رَحْمَةً لِلْعَالَمِيْنَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ کے ساتھ غزوہ تبوک کیلئے گیا۔ ایک دن رحمتِ عالمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ بیٹھ کر اپنے صحابہ کرام علیہم الرضوان سے گفتگو فرما رہے تھے کہ دورانِ گفتگو ارشاد فرمایا کہ: جو شخص سورج کے بلند ہونے تک اپنی جگہ پر بیٹھا رہے، پھر اٹھ کر کامل وضو کرے اور دو رکعتیں ادا کرے تو اس کے گناہ ایسے معاف کر دیئے جائیں گے، جیسے اس کی ماں نے اسے آج ہی جنا ہو۔

(مسند ابی یعلیٰ، رقم 1757، ج 2، ص 180)

حَضْرَتِ سَيِّدِنَا أَبُو أَمَامَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ سے روایت ہے کہ اللہ عزوجل کے محبوب، دانائے غیوب، مُنَزَّهٌ عَنِ الْغُيُوبِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا، جب سورج اپنے مطلع سے طلوع ہو کر ایسی حالت پر آجائے جیسے نمازِ عصر کے وقت سے غروب تک ہوتا ہے۔ پھر جو شخص دو یا چار رکعتیں ادا کرے تو اس کے لئے اس دن کا ثواب ہے اور اس کے گناہ مٹا دیئے جاتے ہیں، اگر اس دن اس کا انتقال ہو گیا تو جنت

مَدْرَسَةُ الْمَدِينَةِ بِالْمَدِينَةِ پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ)

﴿ جدول کا آغاز ﴾

﴿ طبعی حاجات سے فراغت کے بعد 12:19 پر تلاوت سے جدول کا آغاز کیجئے ﴾

﴿ تلاوت ﴾

﴿ بے وضو قرآن پاک کی کسی آیت کو چھونا حرام ہے۔ دورانِ تلاوت آدابِ تلاوت کو ملحوظ رکھا جائے ﴾

﴿ کلام ﴾

﴿ کلام کے دوران شرکاء کے ہاتھ اٹھے ہوں، نگاہیں جھکائے نہ قسمت روتے ہوئے کلام سنا جائے ﴾

عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی	گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی
میں پانچوں نمازیں پڑھوں باجماعت	ہو توفیق ایسی عطا یا الہی
میں پڑھتا رہوں سنتیں وقت ہی پر	ہوں سارے نوافل ادا یا الہی
دے شوقِ تلاوت دے ذوقِ عبادت	رہوں باوضو میں سدا یا الہی
ہمیشہ نگاہوں کو اپنی جھکا کر	کروں خاشعانہ ذعا یا الہی
میں مٹی کے سادہ سے برتن میں کھاؤں	چٹائی کا ہو بسترا یا الہی
ہر اک مدنی انعام اے کاش پاؤں	کرم کر پئے مصطفیٰ یا الہی
ہو اخلاق اچھا ہو کردار ستھرا	مجھے منقش تو بنا یا الہی
غصیلے مزاج اور تمسخر کی خصلت	سے عطار کو تو بچا یا الہی

﴿ مدرسة المدينة بالغان ﴾

﴿ مدنی قاعدے بھی اسی انداز سے تقسیم کئے جائیں جیسے قرآن پاک تقسیم کئے گئے ﴾

پروردگار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، جو چاشت کی بارہ رکعتیں ادا کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں سونے کا ایک محل بنائے گا۔

(ترمذی کتاب الوتر، باب ماجاء فی صلوة الضحیٰ، رقم 472، ج 2، ص 17)

﴿ تجھ سے اشراق و چاشت تک وقت کا خیال رکھیں، وقت کے حساب سے جدول آگے پیچھے کر لیں، مگر کوئی حلقہ رہنے نہ پائے، اور وقت پر ختم بھی ہو جائے ﴾

﴿ اب آخر میں صبح کی نیت بھی کر لیجئے۔ ﴾

﴿ ہر صبح یہ نیت کر لیجئے ﴾

آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا

(اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ)

﴿ وقفہ آرام ﴾

بیٹھے اسلامی بھائیو! اب وقفہ آرام ہوگا، تمام اسلامی بھائی مدنی انعام نمبر 17 پر عمل کرتے ہوئے چٹائی پر سوتے ہوئے سرہانے سنت بکس رکھنے کی نیت کے ساتھ ساتھ پردے میں پردہ کئے دو اسلامی بھائیوں میں ایک ہاتھ کا فاصلہ رکھتے ہوئے، بغیر ایک دوسرے سے باتیں کیے، سنت کے مطابق سیدھی کروٹ پر سیدھے رخسار کے نیچے سیدھا ہاتھ رکھ کر قبلہ رو آرام فرمائیں، نیز فراغت کے بعد بستر تہہ کرنے کی نیت فرمائیے، 12:00 بجے آپ کو بیدار کیا جائیگا۔ (مگر ان مجلس اعکاف کی طرف سے بیدار کرنے کے وقت میں تبدیلی بھی ہو سکتی ہے)

﴿ 12:00 بجے بیدار کرنے کا اعلان ﴾

بیٹھے اسلامی بھائیو! اللہ تعالیٰ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 17 کے جز (بستر اور لباس تہہ) کرتے ہوئے اٹھئے اور مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ طبعی حاجات سے فارغ ہو کر اور مدنی انعام نمبر 39 دن کا اکثر حصہ با وضو رہنے کی نیت کے ساتھ وضو سے فراغت کے بعد حلقوں میں تشریف لے آئیے۔ مدنی انعام نمبر 13 پر عمل کرتے ہوئے

کرتے ہوئے سنتِ قبلیہ اور مدنی انعام نمبر 2 پر عمل کرتے ہوئے نمازِ ظہر باجماعت تکبیرِ اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کریں گے اور مدنی انعام نمبر 18 پر عمل کرتے ہوئے بعد کے نفل ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ)

﴿ بعد نمازِ ظہر ﴾

﴿ تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴾

﴿ نماز کے بعد امامِ صاحبِ دُعائے ثانی کروائیں گے۔ دُعائے بعدیوں اعلان فرمائیں ﴾

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 3 پر عمل کرتے ہوئے ایک بار آیتُ الْكُرْسِيِّ، تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور سُورَةُ الْاِخْلَاصِ پڑھ لیجئے۔ (وقت 3 منٹ)

مدینہ: 28 رمضان المبارک بعدِ ظہر اور مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے پہلے ذمہ داریاں تقسیم کرنے اور مدنی بہاریں لکھوانے کا حلقہ لگایا جائے۔

﴿ مدنی درس (درسِ فیضانِ سنت) ﴾

﴿ اب یوں اعلان کیجئے ﴾ (وقت 7 منٹ)

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 12 پر عمل کرتے ہوئے مدنی درس (درسِ فیضانِ سنت) سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ)

رحمت بھری حکایت	19-21	01
قابلِ رشک موت	24-26	02
کوئی مانے یا نہ مانے اپنا ثواب کھرا ہے	31-32	03
حیرت انگیز حادثہ	35-39	04

میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو! اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 13 پر عمل کرتے ہوئے مدنی رستہ المدینہ بالغان پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ)

مَدْرَسَةُ الْمَدِينَةِ (بَالِغَانِ)

01	تختی نمبر 01	تصحیح (ٹھس۔ ٹھس) حروف پر خوب توجہ دی جائے اور مخارج یاد کرائے جائیں۔
02	تختی نمبر 01	حروف کی مخارج سے ادائیگی کی مشق کروائی جائے۔
03	تختی نمبر 02	حروف کی صحیح ادائیگی اور ہر حرف کو الگ الگ پڑھائیے۔
04	تختی نمبر 02	حروف کی صحیح ادائیگی اور ہر حرف کو الگ الگ پڑھائیے۔
05	تختی نمبر 03	حرکات، بچے کرنے کا طریقہ، ادائیگی مخارج پر توجہ دیجئے۔
06	تختی نمبر 4+5	حرکات، تنوین کے بچے اور رواں پڑھائیے۔
07	تختی نمبر 06	بچے، رواں، ادائیگی اور مخارج پر توجہ دی جائے۔
08	تختی نمبر 06	بچے، رواں، ادائیگی اور مخارج پر توجہ دی جائے۔
09	تختی نمبر 07	حروفِ مدہ کی پہچان، دراز کرنے سے متعلق اچھی طرح سمجھائیے۔
10	تختی نمبر 8+9	سبق نمبر 8 کو ایک الف دراز کرنے اور سبق نمبر 9 کو بغیر کھنچ کر پڑھنے کے لیے خصوصی توجہ دیجئے۔

مدینہ: جن اسلامی بھائیوں کا مدنی قاعدہ جلد مکمل ہو جائے یا انہوں نے پہلے ہی سے پڑھا ہوا نہیں آخری 10 سورتوں کی دُہرائی کرائی جائے۔

﴿ نمازِ ظہر کی تیاری ﴾

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 36 پر عمل کرتے ہوئے نگاہیں جھکا کر چلنے کی مشق کے ساتھ مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وضو کریں گے اور مدنی انعام نمبر 4 پر عمل کرتے ہوئے اذان و اقامت کا جواب دے کر مدنی انعام نمبر 18 پر عمل

کثیر کی تعریف یاد کروائے، باقی سمجھانے والے انداز میں صرف پڑھ کر سنائے)

﴿ اشارے ﴾

﴿ اب یوں اعلان کیجئے ﴾ (وقت 15 منٹ)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 46 زبان کا قفلِ مدینہ لگاتے ہوئے فضول گُوئی سے بچنے کی عادت ڈالنے کے لیے کچھ نہ کچھ اشارے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ)

نوٹ:- مگر ان اعتکاف دیئے گئے اشاروں میں سے روزانہ سات ہی اشارے سکھائیں۔

﴿ فکرِ مدینہ مع لکھ کر گفتگو ﴾

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 15 پر عمل کرتے ہوئے فکرِ مدینہ کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ) (وقت 12 منٹ)

﴿ دورانِ فکرِ مدینہ قفلِ مدینہ عینک لگانے کی ترغیب دلائیں ﴾

ذمہ دار اسلامی بھائی یومیہ 50 مدنی انعامات کی فکرِ مدینہ کروادے، اس دوران مدنی انعامات کا رسالہ آپ کے ہاتھ میں ہو۔

﴿ لکھ کر گفتگو کا طریقہ ﴾

﴿ لکھ کر گفتگو کرنے سے پہلے آج کے دن اور عبوسوی و مدنی تاریخ کا درست تعین کر لیجئے ﴾

بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! ہاتھوں ہاتھ اپنے اپنے قفلِ مدینہ کے پیڈ نکال لیجئے اور روزانہ نمازِ مغرب کے بعد یا کسی بھی وقت مقررہ پر فکرِ مدینہ کرنے کے بعد یہ چار جملے لکھنے کا معمول بنا لیجئے۔ آئیے ہاتھوں ہاتھ ان 4 جملوں کو لکھ لیتے ہیں۔

26 رمضان المبارک ۱۳۶۹ھ 12 جولائی 1950ء بروز بدھ ۰ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ ۰ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّدٍ ۰ یا میر محمد پاک کرم فرمائیے۔ صَلَّی اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی

05	45-47	صدیق اکبر (رضی اللہ تعالیٰ عنہ) نے مدنی آپریشن فرمایا
06	50-53	آقانے برص کا علاج فرمایا
07	259-261	ایک غیر مسلم کا قبولِ اسلام
08	80-82	آفتیں دور کرنے کا آسان ورد
09	89-92	زمین پر لکھنا
10	96-98	مغفرت کا انعام

﴿ نماز کے احکام ﴾

﴿ 02:00 تا 02:30 ﴾ (وقت 30 منٹ)

اللہ عَزَّوَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 72 پر عمل کرتے ہوئے نماز کے احکام سے وضو، غسل اور نماز درست کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ)

(مندرجہ ذیل عنوانات کے مطابق ”نماز کے احکام“ سے وضو، غسل اور نماز سے متعلق بیان ہو۔ فرائض و واجبات، سنتیں اور طریقہ کار وغیرہ یاد کروائیے، باقی سمجھانے والے انداز میں صرف پڑھ کر سنائیے)۔

﴿ ۱ ﴾ وضو کا طریقہ، فرائض اور سنتیں (ص ۱۶ تا ۱۸) ﴿ ۲ ﴾ غسل کا طریقہ، غسل کے فرائض (ص ۱۱۰ تا ۱۱۰۰)

﴿ ۳ ﴾ تیمم کے فرائض، تیمم کی سنتیں، تیمم کا طریقہ (ص ۱۲۶ تا ۱۲۹) ﴿ ۴ ﴾ نماز کی شرائط (ص ۱۹۳ تا ۲۰۰)

﴿ ۵ ﴾ نماز کے فرائض (ص ۲۰۱ تا ۲۰۹) ﴿ ۶ ﴾ نماز کا عملی طریقہ ﴿ ۷ ﴾ نماز جنازہ فرضِ کفایہ ہے، نمازِ جنازہ کے ارکان، نمازِ جنازہ کا طریقہ اور نمازِ جنازہ کے مسائل (ص ۳۸۰ تا ۳۹۳) ﴿ ۸ ﴾ شرعی سفر کی مسافت، مسافر بننے کے لئے شرط اور مسافر کب تک مسافر ہے (ص ۳۰۱ تا ۳۰۵) ﴿ ۹ ﴾ غسلِ میت کا طریقہ اور دفنانے کا طریقہ (ص ۲۶۶ تا ۲۶۹) (اس میں مگر ان اعتکاف عملی طریقہ کر کے دکھائے اور ”نماز کے احکام“ سے سمجھانے والے انداز میں صرف پڑھ کر سنائے) ﴿ ۱۰ ﴾ نماز توڑنے والی ”29“ باتیں (ص ۲۳۹ تا ۲۶۲) (اس میں مگر ان اعتکاف عمل

30۳25	ادب کی ضرورت	3
38۳33	آل رسول کا ادب	4
51۳48	مرشد کامل کے حاسدین	5
56۳52	با ادب بانصیب	6
60۳56	نگاہِ ولایت کے اسرار	7
66۳61	ناقص مرید	8
70۳67	مرید ہو تو ایسا	9
74۳71	فتویٰ رضویہ شریف سے آدابِ مرشد کامل	10

﴿ مَنَقَبَات ﴾

﴿ کوشش کریں کہ منقبتِ خوش الحانِ اسلامی بھائی سے پڑھائی جائے، یہاں درج منقبت کے علاوہ مکتبہ المدینہ سے شائع ہونے والی منقبت عطار بدل بدل کر پڑھ سکتے ہیں ﴾

پہر توجہ بڑھا میرے مرشدِ پیا	نظریں دل پہ جما میرے مرشدِ پیا
نفسِ حاوی ہوا حالِ میرا بُرا	تجھ سے کب ہے چھپا میرے مرشدِ پیا
اب لے جلدی خبر تیری جانبِ نظر	میں نے لی ہے لگا میرے مرشدِ پیا
سخت دل ہو چلا اب کیا ہوگا میرا	اب دے دل کو جلا میرے مرشدِ پیا
تیری بس اک نظر دل پہ ہو جائے گر	پائے گا یہ شفاء میرے مرشدِ پیا
ایسی نظریں جھکیں پھر کبھی نہ اٹھیں	دے دے ایسی حیا میرے مرشدِ پیا
گر میں چپ نہ رہا بولتا ہی رہا	نامہ ہوگا سیاہ میرے مرشدِ پیا

مُحَمَّد ۰

(1) کیا آج آپ نے فکرِ مدینہ کر لی؟ (2) کیا ہر دوسرے دن تحریری گفتگو کیلئے نئی تاریخ لکھ لیتے ہیں؟ (3) کم از کم 4 بار لکھ کر گفتگو کی؟ (4) اگر نہیں تو فوراً ترکیب بنا لیجئے۔

﴿ سُنَّتیں و آداب کا حلقہ ﴾

(وقت 20 منٹ)

﴿ ۱ ﴾ سلام کے 11 مدنی پھول (رسالہ 101 مدنی پھول ص ۲ تا ص ۵) ﴿ ۲ ﴾ تلاوت کے 21 مدنی پھول (رسالہ تلاوت کی فضیلت ص ۱۱ تا ص ۱۶) ﴿ ۳ ﴾ بات چیت کرنے کے 12 مدنی پھول (رسالہ 101 مدنی پھول ص ۹ تا ص ۱۲) ﴿ ۴ ﴾ انگوٹھی کے 19 مدنی پھول (163 مدنی پھول، ص 29 تا 32) ﴿ ۵ ﴾ ناخن کاٹنے کے 9 مدنی پھول (رسالہ 101 مدنی پھول ص ۱۶ تا ص ۱۹) ﴿ ۶ ﴾ ناخن، جامت، موئے بغل وغیرہ سے متعلق سنتیں اور آداب (سنتیں اور آداب ص ۶۳) ﴿ ۷ ﴾ گھر میں آنے جانے کے 12 مدنی پھول (رسالہ 101 مدنی پھول ص ۲۳ تا ص ۲۶) ﴿ ۸ ﴾ سفر کی سنتیں اور آداب (سنتیں اور آداب ص ۴۲ تا ۵۳) ﴿ ۹ ﴾ سونے جاگنے کے 15 مدنی پھول (رسالہ 101 مدنی پھول ص ۲۹ تا ص ۳۱) ﴿ ۱۰ ﴾ زینت کی سنتیں اور آداب (سنتیں اور آداب ص ۷۸) اور سیکھی ہوئی سنتوں کی دہرائی۔

﴿ تَصَوُّرِ مَرْشَدِ ﴾

(وقت 12 منٹ)

﴿ اب ”آدابِ مرشد کامل“ سے بیان اور تصورِ مرشد کی ترکیب ہوگی ﴾

(ایسا اسلامی بھائی جو امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ سے مرید یا طالب نہیں بلکہ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں، وہ اپنے پیر صاحب کا تصور جمائیں)۔

دن	موضوع	صفحہ نمبر
1	فیضانِ اولیاء	11 تا 17
2	مرشدِ کامل کے 26 مکی مدنی اوصاف	18 تا 22

سنتوں بھرے بیان کی ترکیب کی جائے۔

﴿ بیان ﴾ (وقت 41 منٹ)

(مدینہ: درج ذیل بیانات ”المدینۃ العلمیہ“ کی طرف سے تیار ہونے والے ”ہفتہ وارا اجتماع“ کے

بیانات ہیں، یہ تیار شدہ بیانات الگ سے میل کیے جا رہے ہیں)

1	مسجد کے آداب	2	نیت کی اہمیت
3	زبان کا قفل مدینہ	4	آنکھوں کا قفل مدینہ
5	ترک جماعت کی وعیدیں	6	فیضانِ مدنی انعامات
7	جھوٹ کی تباہ کاریاں	8	رسالہ: صدائے مدینہ
9	مقصد حیات	10	نیکی کی دعوت کی بہاریں

ہر بیان کے آخر میں ”12 مدنی کاموں“ میں سے کسی ایک مدنی کام پر کچھ بیان کیا جائے، معکفین

کو 12 مدنی کاموں میں عملی طور پر شامل ہونے کی ترغیب دلائی جائے۔ جن مدنی کاموں کے رسائل شائع

ہو چکے ہیں مثلاً (12 مدنی کام، صدائے مدینہ، چوک درس) ان سے مدد بھی لی جاسکتی ہے۔

﴿ شجرہ شریف کے اورداد ﴾

((اب اس طرح اعلان کیجئے)) (وقت 10 منٹ)

اللہ ﷻ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 5 کے جُز پر عمل کرتے ہوئے

کچھ نہ کچھ شجرہ شریف کے اورداد پڑھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ)

((اب یہ اورداد پڑھائیں))

﴿ 1 ﴾ جو کوئی ﴿ اَعُوذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ﴾ تین، تین بار پڑھ کر سُورَةُ

﴿ نماز عصر کی تیاری ﴾

اللہ ﷻ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 36 پر عمل کرتے ہوئے نگاہیں

جھکا کر چلنے کی مشق کے ساتھ مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ وضو کریں

گے اور مدنی انعام نمبر 4 پر عمل کرتے ہوئے اذان و اقامت کا جواب دے کر مدنی انعام نمبر 18 پر عمل

کرتے ہوئے سُنَّتِ قَبْلِيَّةِ اور مدنی انعام نمبر 2 پر عمل کرتے ہوئے نماز عصر باجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ

پہلی صف میں ادا کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ)

﴿ تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴾

((نماز کے بعد امام صاحب دُعا کروائیں گے۔ دُعا کے بعد یوں اعلان فرمائیں))

مدینہ: ہر جمعرات کو بعد عصر ہفتہ وارا اجتماع کے جدول کے مطابق ترکیب ہوگی۔

اللہ ﷻ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 3 پر عمل کرتے ہوئے ایک بار آیتُ

الْكَرْسِيِّ، تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ تَعَالَى عَنْهَا اور سُورَةُ الْاِخْلَاصِ پڑھ لیجئے۔ (وقت 3 منٹ)

﴿ مدنی مذاکرہ ﴾

((مدنی مذاکرہ شروع ہوتے ہی تمام جدول موقوف فرما کر مدنی مذاکرہ میں سب شریک ہو جائیں، مگر ان حلقہ

اپنے حلقے کے تمام اسلامی بھائیوں کی حاضری کو 100 فیصد یقینی بنانے کے لیے از خود خیر خواہی کرتے ہوئے

ان سب کو مدنی مذاکرے میں شامل کرنے کی کوشش کریں))

20 رمضان تک ویڈیو مدنی مذاکرے کی ترکیب کی جائے اور آخری عشرے میں صرف آڈیو مدنی مذاکرہ سُنایا جائے۔

(مسجد دفنائے مسجد اور ایسی جگہ کہ جہاں لوگ یہ سمجھیں کہ مسجد میں مدنی چینل دیکھا جا رہا ہے، کے علاوہ کسی مقام پر))

کسی عذر کی وجہ سے اگر مدنی مذاکرہ دیکھنے/سننے کی ترکیب نہ ہو سکے تو درج ذیل جدول کے مطابق

﴿ دُعَائے افطار ﴾

﴿ کوئی خوش الحان نعت خواں اسلامی بھائی دعائے افطار مکتبۃ المدینہ کی شائع کردہ کتاب وسائل بخشش سے ہی ترکیب کریں ﴾

﴿ نماز مغرب ﴾

﴿ تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴾

﴿ نماز کے بعد امام صاحب دُعاے ثانی کروائیں گے۔ دُعا کے بعد یوں اعلان فرمائیں ﴾

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رضاپانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 3 پر عمل کرتے ہوئے ایک بار آیتہ
الْكَرْسِيِّ، تَسْبِيحِ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا اور سُورَةُ الْاِخْلَاصِ پڑھ لیجئے۔ (وقت 3 منٹ)

﴿ سُوْرَةُ الْمَلِكِ ﴾

﴿ سُوْرَةُ الْمَلِكِ وہی اسلامی بھائی پڑھیں جن کی قرأت دُرست ہو۔ ﴾

﴿ اب یوں اعلان کیجئے ﴾

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رضاپانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 3 کے جُز سُوْرَةُ الْمَلِكِ پڑھنے اور سُننے کی
سعادت حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ)

﴿ وقفہ ، طعام، نمازِ عشاء و نمازِ تراویح کی تیاری ﴾

﴿ اب اس طرح اعلان کیجئے ﴾

اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ کی رضاپانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 36 پر عمل کرتے ہوئے ننگا ہیں
جھکا کر چلنے کی مشق کے ساتھ کھانے کا وضو کریں گے (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) اور مدنی انعام نمبر 1 پر عمل کرتے
ہوئے اچھی اچھی نیتیں کریں گے (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) اور مدنی انعام نمبر 11 پر عمل کرتے ہوئے پردے
میں پردہ کر کے بیٹھنے اور مٹی کے برتن میں بھوک سے کم کھانے کی سعادت حاصل کریں گے۔ کھانے کے
بعد نمازِ عشاء و نمازِ تراویح کی تیاری کی ترکیب ہوگی اور مدنی انعام نمبر 4 پر عمل کرتے ہوئے اذان و اقامت

الْحَشْرِ کی آخری 3 آیتیں صُبح پڑھے تو شام تک 70 ہزار فرشتے اُس کے لیے اسْتِغْفَار کریں اور اُس دن
مرے تو شہید ہوگا اور شام کو پڑھے تو صُبح تک یہی فضیلت۔

﴿ اب یوں کہیں بیٹھے بیٹھے اسلامی بھائیو! میں پڑھتا ہوں آپ توجہ سے سنئے ﴾

أَعُوذُ بِاللَّهِ السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (3 بار)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ عِلْمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ ۚ هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ۝ هُوَ اللَّهُ الَّذِي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمِنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ ۚ
سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يُشْرِكُونَ ۝ هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى ۚ
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۚ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

﴿ 2 ﴾ اب جو ورد پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے۔ جو کوئی تین، تین بار پڑھے اِنْ شَاءَ اللَّهُ
عَزَّوَجَلَّ پڑھنے والے کا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔

﴿ اللَّهُمَّ اِنَّا نَعُوْذُ بِكَ مِنْ اَنْ نُشْرِكَ بِكَ شَيْئًا نَعْلَمُهُ وَنَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لَا نَعْلَمُهُ ﴾

﴿ 3 ﴾ اب جو ورد پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے جو کوئی تین، تین بار پڑھے، پڑھنے والے کے
دین، ایمان، جان، مال بچے سب محفوظ رہیں (اِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ) آپ بھی پڑھ لیجئے۔

﴿ بِسْمِ اللَّهِ عَلَى دِينِي بِسْمِ اللَّهِ عَلَى نَفْسِي وَوَلَدِي وَأَهْلِي وَمَالِي ﴾

﴿ 4 ﴾ اب جو ورد پڑھایا جائے گا اس کی فضیلت میں آتا ہے جو کوئی تین، تین بار پڑھے سانپ، بچھو وغیرہ
موزیات سے پناہ حاصل ہو۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔

﴿ أَعُوْذُ بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ ﴾

حلقہ اپنے حلقے کے تمام اسلامی بھائیوں کی حاضری کو 100 فیصد یقینی بنانے کے لیے از خود خیر خواہی کرتے

ہوئے ان سب کو مدنی مذاکرے میں شامل کرنے کی کوشش کریں ﴿﴾

پاکستان انتظامی کابینہ مکتب

تاریخ اجراء: ۹ شعبان المعظم ۱۴۳۸ھ، 6 مئی 2017ء

کا جواب دے کر مدنی انعام نمبر 18 پر عمل کرتے ہوئے سنتِ قبلیہ اور مدنی انعام نمبر 2 پر عمل کرتے ہوئے نمازِ عشاء باجماعت تکبیرِ اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں ادا کریں گے اور ماہِ رَمَضان کی برکتیں لُٹتے ہوئے تراویح باجماعت ادا کریں گے۔ مدنی انعام نمبر 18 پر عمل کرتے ہوئے بعد کے نفل ادا کرنے کی سعادت بھی حاصل کریں گے۔ (اِنْ شَاءَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ)

﴿﴾ کھانے کا وضو کرنے کے دوران ہاتھ اچھی طرح صابن سے دھوئے کا ذہن دیکھئے، کھانے سے پہلے نیتیں کروائیں اور ہمیشہ کھانے سے پہلے نیتیں کرنے کا ذہن بھی دیں، کھانے کی دعا پڑھائیں، لقمہ توڑنے کا طریقہ اور اس کا سائز کتنا ہو یہ بتائیں، ریز پیئڈ پینے کی حکمت بتائیں، تین انگلیوں سے کھانے کا ذہن دیں، سنت کے مطابق بیٹھ کر کھانے کا ذہن دیں، اس دوران موقع کی مناسبت سے ایک اسلامی بھائی کلام بھی سناتے رہیں، آخر میں برتن صاف کر کے ترغیب کی نیت سے دکھانے کی ترکیب ہو، برتن اور کپ وغیرہ دھو کر پینے کی ترغیب دلائی جائے، دسترخوان پر گرے ہوئے ٹکڑے اٹھا کر کھانے کی ترغیب دلائی جائے، نگرانِ اسلامی بھائی ہر بار کھانے میں کسی ایک حلقے میں حاضری دیں، بہتر یہ ہے کہ جس حلقے میں کمزوری ہے اس میں بیٹھیں اور مسکراتے مسکراتے کمزوری کا حل فرمادیں، کھانے کے بعد کی دعائیں پڑھائیں، آخر میں سورہٴ اخلاص اور سورہٴ قریش پڑھنے کی ترکیب بتائیں ﴿﴾

﴿﴾ نمازِ عشاء مع تراویح ﴿﴾

﴿﴾ تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا ﴿﴾

﴿﴾ نماز کے بعد امامِ صاحبِ دُعائے ثانی کروائیں گے۔ دُعا کے بعد یوں اعلان فرمائیں ﴿﴾

اللّٰهُمَّ عَزَّ وَجَلَّ کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لئے مدنی انعام نمبر 3 پر عمل کرتے ہوئے ایک بار آیتہ الْكُرْسِيِّ، تَسْبِيحُ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا اور سُورَةُ الْاِخْلَاصِ پڑھ لیجئے۔ (وقت 3 منٹ)

﴿﴾ مَدَنِي مَذَاكِرہ ﴿﴾

﴿﴾ مَدَنِي مَذَاكِرہ شروع ہوتے ہی تمام جدول موقوف فرما کر مدنی مذاکرہ میں سب شریک ہو جائیں۔ نگران

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ طِبْسُمُ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط
”نوٹ لوفیضانِ اعتکاف“ کے 16 حروف کی نسبت سے اجتماعی اعتکاف (پورا ماہ رمضان/ آخری عشرہ) کے 16 مدنی پھول

- ﴿1﴾ اجتماعی اعتکاف کی خوب دُھو میں پچائیے۔ ہفتہ وار مدنی مذاکرے، ہفتہ وار اجتماع اور مدنی مشوروں میں بھر پور اعلان کر کے ترغیب دلائیے۔
- ﴿2﴾ ذمہ داران خود بھی اعتکاف کی برکتیں لوٹیں اور جو کسی عذر کی بناء پر اعتکاف کی سعادت حاصل نہ کر سکیں، انہیں چاہیے کہ وہ اپنی نجی مصروفیات کے بعد اپنا سارا وقت اجتماعی اعتکاف میں نگرانِ اعتکاف کے مشورے سے جدول کے مطابق گزاریں۔
- ﴿3﴾ معلم و مبلغ درس و بیان کے آخر میں اعتکاف کی ترغیب دلائیں۔ درس و بیان کے بعد ملاقات کے دوران انفرادی کوشش کے ذریعے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف کے لیے تیار کریں۔ بالخصوص مجلس تاجران، مجلس رابطہ، مجلس شعبہ تعلیم، مجلس خصوصی اسلامی بھائی وغیرہ اور دیگر شعبہ جات کے اسلامی بھائی اپنے اپنے شعبوں میں اجتماعی اعتکاف کی بھر پور ترغیب دلائیں۔
- ﴿4﴾ اجتماعی اعتکاف (پورا ماہ رمضان) کا ہدف: فی ذیلی حلقہ 2 اسلامی بھائی اور فی کاہینہ 1 مقام، آخری عشرے کیلئے فی حلقہ 12 اسلامی بھائی اور فی علاقہ 1 مقام۔ تمام ذمہ داران، نگران، ڈویژن/شہر/علاقہ/حلقہ/ذیلی مشاورت اس ہدف کو پورا کرنے کی بھر پور کوشش فرمائیں۔
- ﴿5﴾ اجتماعی اعتکاف اُس مسجد میں کریں، جہاں ضروریات پوری ہو سکیں۔ مثلاً گنجائش، استیفاء خانہ و وضو خانہ اور مدنی مرکز کے دیئے ہوئے جدول کے مطابق عمل وغیرہ۔

﴿6﴾ مسجد انتظامیہ سے اجتماعی اعتکاف کی پیشگی اجازت حاصل کر لیجئے۔ (اجازت تحریری ہو تو زیادہ بہتر ہے)

﴿7﴾ اجتماعی اعتکاف کو مضبوط کرنے کے لیے مجلس اعتکاف بنائیے، جس میں 3 تا 5 اراکین ہوں۔ مجلس اعتکاف کا نگران احساسِ ذمہ داری رکھنے والا ہونا چاہیے نیز کم از کم ایک مدنی اسلامی بھائی (جامعۃ المدینہ سے فارغ التحصیل یا دورہ حدیث کے طالب العلم) بھی شامل کئے جائیں۔ اگر پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کے لیے مجلس بنی ہوئی ہے تو آخری عشرے کے اعتکاف کیلئے نئی مجلس بنانے کی حاجت نہیں۔ ہاں ضرورتاً نگرانِ اعتکاف مجلس کے مشورے سے اضافہ کیا جاسکتا ہے)

﴿8﴾ کاہینات سطح پر اعتکاف کی ایک مجلس بنائی جائے، جس میں مجلس مدنی قافلہ، مجلس لنگر رضویہ، مجلس مدنی انعامات، مجلس فیضانِ مدینہ، مجلس مدرسۃ المدینہ، بالغان، مجلس کورسز، مجلس مالیات، مجلس عشر و اطراف گاؤں، مجلس حفاظتی امور کے کاہینات ذمہ داران شامل ہوں گے، اس مجلس کے نگران مجلس، کاہینات مدنی قافلہ ذمہ دار ہوں گے۔ (بحوالہ: مدنی پھول مدنی مشورہ مرکزی مجلس شوریٰ، مارچ 2017ء)

﴿9﴾ دورانِ اعتکاف بالخصوص سیکھنے سکھانے کے حلقوں کے جدول میں علمائے اہلسنت، سنی مساجد کی انتظامیہ، پروفیشنلز، تاجر، صنعت کار، سیاسی شخصیات، فنکار، صحافی اور انتظامیہ (بیورو کریسی) وغیرہ کو خصوصی طور پر دعوت دیجئے۔ (بعد عصر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا، افطار سے کچھ دیر قبل ”دعائے افطار“ کی ترکیب ہوگی۔)

﴿10﴾ دورانِ اعتکاف، مجلس اعتکاف نئے نئے اسلامی بھائیوں کو اُن کی صلاحیتوں کے مطابق شہر/علاقہ مشاورت کے نگران سے مشورہ کروا کر 12 مدنی کاموں کی ذمہ داریاں ہاتھوں ہاتھ دیں۔

﴿11﴾ 26 ویں شب کو جشنِ ولادتِ امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ بھر پور انداز سے منائیے مگر ایسے اُمور سے پرہیز کیجئے کہ جس سے اعتراض قائم ہو کہ حکمتِ مؤمن کا کھویا ہوا خزانہ ہے۔ اس خوشی کے موقع پر مطبوعاتِ مکتبۃ المدینہ کی تقسیم (بالخصوص امیر اہلسنت کی سیرت مبارکہ پر مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتب و رسائل) کا خصوصی اہتمام اور امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کی بارگاہ میں اچھی اچھی نیتوں کے تحائف (تحائف فارم 24 رمضان تک پُر کر کے متعلقہ نگرانِ کاہینات اور پاک کاہینہ مکتب میں میل کر دیجئے) بھی پیش کیجئے۔

﴿12﴾ 27 ویں شب ختم قرآن کے موقع پر، امام و خطیب وغیرہ کو اعتکاف مجلس کے ذریعے مدنی تحائف و نقدی پیش کیجئے۔ (مدنی مراکز فیضانِ مدینہ و مساجد دعوتِ اسلامی میں یہ ترکیب مجلس فیضانِ مدینہ کے ذریعے کی جاتی ہے)

﴿13﴾ اجتماع الوداع ماہ رمضان 29 رمضان بعد عصر کیجئے۔ امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کا الوداع ماہ رمضان کا کلام پڑھا جائے پھر دُعا، اگر 30 روزے ہوں تو 30 رمضان بعد عصر پھر اجتماع الوداع رمضان کی ترکیب کیجئے۔

﴿14﴾ دورانِ اعتکاف 12، 12 اسلامی بھائیوں کے حلقے بنائے، جس پر ایک سُلجھے ہوئے مبلغ (حتی الامکان 12 دن کا اصلاحِ اعمال کورس کیے ہوئے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف کے حلقے کی ذمہ داری دی جائے) کو حلقہ نگران مقرر کیجئے، ذمہ دار کے ساتھ 2 معاون بھی بنا دیئے جائیں تو مدینہ مدینہ۔ (12 سے زیادہ حلقوں کی صورت میں 2 علاقے بنا دیئے جائیں تو زیادہ سہولت رہے گی)

﴿15﴾ مجلس کے تمام اسلامی بھائی اپنی خدمات بہتر طور پر انجام دینے کیلئے شیخ طریقت، امیر اہلسنت وامت، برکاتہم العالیہ کا مدنی مذاکرہ نمبر 36، 37، 38 اور امیر اہلسنت وامت، برکاتہم العالیہ کی VCD "اعتکاف کے مدنی پھول" ضرور سن لیں۔

﴿16﴾ مجلسِ اجتماعی اعتکاف کے تحت درج ذیل مجالس بھی بنائے۔ (1) مجلسِ مالیات (2) مجلسِ جدول (3) مجلسِ لائٹ و سائونڈ (4) خریداری مجلس (5) مجلسِ تیاریِ طعام (6) مجلسِ فراہمیِ طعام (7) صفائی مجلس (8) خیر خواہ مجلس (9) مجلسِ حفاظتی امور (10) استقبالیہ مجلس (11) بستہ مجلس (12) مدنی چینل ریلے مجلس (13) مجلسِ مدنی انعامات (14) مدنی قافلہ مجلس (15) خوشنویس مجلس (16) مجلسِ مکتوبات و تعویذاتِ عطاریہ (17) مجلسِ افطار اجتماعات (18) مجلسِ مکاتب (19) مجلسِ تقسیمِ رسائل (ہر مجلس میں اراکین کی تعداد 3 یا حسبِ ضرورت) (مدینہ: اعتکاف کے جدول میں شامل کتب و رسائل کی فراہمی کے لیے متعلقہ نگران کا بینہ، کا بینہ کے ہر اعتکاف کے لیے پیشگی معلومات لے کر ترکیب کریں)۔

#	مجلس	ذمہ داریاں
۱	مجلسِ مالیات	اس مجلس کے ذمے مختلف اسلامی بھائیوں کو دعوتِ اسلامی کے مدنی کاموں اور شعبہ جات کا تعارف پیش کر کے ان سے زکوٰۃ و فطرہ کی ترکیب بنانا ہے۔ (یاد رہے کہ مختلف اسلامی بھائیوں سے سحری و افطاری کے لئے رقم نہیں لی جائے گی، ہاں اگر دعوتِ اسلامی کے مدنی کاموں کے لئے کوئی رقم دینا چاہے تو ہر نیک اور جائز کام میں خرچ کی اجازت کے ساتھ رقم لے کر ہاتھوں ہاتھ رسید پیش کر دیں) جو مختلف رقم جمع کروائیں انہیں رسید دینا، رسیدگیس کی ترکیب نگران ڈویژن / شہر/ علاقہ مشاورت کی اجازت سے پہلے سے کر لیجئے۔ 29 رمضان المبارک دن 11:00 بجے تک حساب کتاب مجلسِ اجتماعی اعتکاف / شہر مجلسِ مالیات کو دے دیں۔
۲	مجلسِ جدول	مکمل اعتکاف کو مدنی مرکز کے دیئے ہوئے جدول کے مطابق چلانا، دورانِ اعتکاف مبلغین کو اعتکاف کے جدول میں دیئے ہوئے بیانات کے مطابق کم از کم ایک ہفتہ پہلے پرچی دینا، بیان سے قبل یاد دہانی کرانا، مائیک اور ٹائم کنٹرول کرنا وغیرہ۔
۳	مجلسِ لائٹ و سائونڈ	سائونڈ اور لائٹ کی بہترین ترکیب اور مناسب استعمال (مائیک استعمال کرنے کے مدنی پھولوں کو مد نظر رکھا جائے)، لوڈ شیڈنگ کی صورت میں پیشگی جزیئر / UPS کا انتظام کرنا (موجودہ لوڈ شیڈنگ کے پیش نظر بہترین جزیئر کی لازمی ترکیب کیجئے UPS نانا کافی ہو سکتا ہے)۔
۴	خریداری مجلس	سحری و افطار کے لیے آٹا، دال چاول، سبزی، چائے کی پتی، چینی، مصالحہ وغیرہ کی خریداری اس کے علاوہ مجلسِ اجتماعی اعتکاف کے نگران کی اجازت پر ضروری سامان کی خریداری۔
۵	مجلسِ تیاریِ طعام	اس مجلس کی ذمہ داری ہے کہ مجلسِ اعتکاف کے دیئے ہوئے جدول کے مطابق وقت پر کھانا پکوائے۔ اہل محبت سے سحری و افطاری کے لئے لنگر رضویہ کی ترکیب بنائے۔
۶	مجلسِ فراہمیِ طعام	اس مجلس کی ذمہ داری ہے کہ اسلامی بھائیوں کو مجلسِ اجتماعی اعتکاف کے دیئے ہوئے جدول کے مطابق بروقت کھانا کھلائے اور روزانہ ہونے والے افطار اجتماع میں شرکت کرنے والے مہمانوں کے لئے بھی کھانے کا اہتمام کرے نیز برتن کی پوری تعداد، بروقت مناسب ڈھلائی، مناسب تعداد میں صاف دسترخوان وغیرہ کی ترکیب بنائے۔
۷	صفائی مجلس	اس مجلس کی ذمہ داری ہے کہ مسجد، کھانے کی جگہ، وضو خانہ اور استنجاء خانہ وغیرہ کی صفائی کا بہترین انتظام کرے۔
۸	خیر خواہ مجلس	اس مجلس کے ذمہ داروں کے مطابق مختلف اسلامی بھائیوں کو نرمی و شفقت کے ساتھ درس و بیان، تربیتی حلقوں و مدنی مذاکرے میں شرکت کروانا، بروقت (جدول کے مطابق) سٹلانا اور اٹھانا ہے۔
۹	مجلسِ حفاظتی امور	اس مجلس کے ذمے مختلف اسلامی بھائیوں اور ان کے سامان کی حفاظت کے اقدامات کرنا ہے، مسجد کے اندر اور بالخصوص داخلی دروازے پر مناسب تعداد میں ڈبل 12 گھنٹے خادین 6، 8 یا 6، 8 گھنٹے کی ڈیوٹیوں پر مقرر ہوں نیز مسجد کے باہر پولیس موہال کی ترکیب بھی اسی مجلس کے ذمہ ہے۔ اعتکاف کے پہلے دن ہر اسلامی بھائی اور اُس کے سامان کی مکمل تلاشیِ حسنِ اخلاق سے لیجئے۔
۱۰	استقبالیہ مجلس	اس مجلس کے ذمہ ملاقات کیلئے آنے والوں پر انفرادی کوشش اور اعتکاف کا تحریری کام ہے، اس مجلس میں مختلف اسلامی بھائی بھی ہو سکتے ہیں۔

۱۱	بستہ مجلس	ہر اعتکاف والی مسجد کے باہر مکتبہ المدینہ کا بستہ یا پرائیویٹ بستہ، چائے کا بستہ (Stall)، پھل، جوس، طبی امداد مکتب (Medical Camp) کیلئے ڈاکٹر اور ضروری ادویات وغیرہ کی مناسب ترکیب، مناسب مقامات پر بنانا ہے۔ مکتبہ المدینہ کے بستے یا پرائیویٹ بستے پر امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے کتب و رسائل، کیسٹ بیانات (آڈیو/ویڈیو) اور مدنی مذاکرے (آڈیو/ویڈیو) نیز مدنی انعامات کے رسائل اور سامان مدنی انعامات (مٹی کے برتن، چٹائی وغیرہ) ضرور موجود ہونے چاہئیں۔
۱۲	مدنی چینل ریڈیو مجلس	اس مجلس کی ذمہ داری ہے کہ مدنی چینل/انٹرنیٹ کے ذریعے بیان و مدنی مذاکرے ریڈیو کرنے کی مناسب ترکیب بنائے، ریڈیو کے انتظامات پہلے سے مکمل کر کے چیک کر لیں۔ اعتکاف کے مختلف مناظر کی ویڈیو بنا کر مجلس مدنی چینل کو بھیجا جیسی اس مجلس کی ذمہ داری ہے۔ (یاد رہے کہ مسجد نئے مسجد میں مدنی چینل چلانے کی اجازت نہیں ہے، ہاں! صرف آواز کی ترکیب بن سکتی ہے)
۱۳	مجلس مدنی انعامات	اس مجلس کے ذمہ ہر معتکف کو مجلس اجتماعی اعتکاف کے نگران کے مشورے کے ساتھ (حلقوں میں جا جا کر) مدنی انعامات کے رسالہ کی فراہمی اور 29 رمضان المبارک کو وصولی، شوال المکرم کے رسالے کا اجراء اور کارکردگی جمع کرنا ہے۔ سامان مدنی انعامات (قفل مدینہ کا عینک، قفل مدینہ پتھر، چٹائی، مٹی کے برتن، سنت بکس وغیرہ) کی بھی ترکیب کی جائے۔
۱۴	مدنی قافلہ مجلس	اس مجلس کے ذمہ ہے کہ ہر معتکف پر حلقوں میں جا جا کر انفرادی کوشش کر کے انہیں چاند رات ہاتھ اور عید کے دن مدنی قافلے میں سفر اور 12 مدنی کام کورس، اصلاح اعمال کورس، فیضان نماز کورس کرنے کا ذہن دے۔ 1 ماہ یا 12 دن کیلئے سفر کرنے والوں کی فہرست تیار کر کے اپنے ڈویژن/شہر/علاقہ قافلہ ذمہ دار کو بھی جمع کروائیے۔ مدنی قافلے سے متعلق معلوماتی سامان مثلاً جدول، نیکی کی دعوت کا پرچہ، کارکردگی فارم وغیرہ کی فراہمی بھی اس مجلس کی ذمہ داری ہے۔
۱۵	خوشنویس مجلس	جدول میں دیئے ہوئے ارشادات امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ اور اعتکاف کی تینوں وغیرہ بینر یا پینا فلکس بنوا کر لگوانا اور حلقوں کی نمبرنگ وغیرہ لکھنا۔
۱۶	مجلس کتب و تعویذات عطاریہ	دوران اجتماعی اعتکاف اسلامی بھائیوں کو عطاری (مرید/طالب) بنانے کی ترکیب اور امیر اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے تعویذات دینا، بیعت ہونے والوں کے لیے ممکنہ صورت میں ”مکتوب“ کی بھی ترکیب نیز شجرہ قادریہ، رضویہ، ضیائیہ، عطاریہ حاصل کرنے اور پڑھنے کی ترغیب دلانا اور مدنی بہاروں کے فارم کی فراہمی و وصولی بھی اس مجلس کی ذمہ داری ہے۔
۱۷	مجلس افطار اجتماع	افطار اجتماع کا مناسب و بروقت انتظام کرنا اس مجلس کی ذمہ داری ہے۔
۱۸	مجلس مکاتب	اس مجلس کے ذمہ مجلس مدنی انعامات و مدنی قافلہ، مجلس خصوصی اسلامی بھائی، مجلس اصلاح برائے قیدیان، شعبہ تعلیم اور جامعہ المدینہ و مدرسہ المدینہ (اگر اُس شہر یا اطراف میں ہے تو) کے مکاتب کی ترکیب کرنا ہے۔ مکاتب کی ترکیب خصوصی بیان وغیرہ کے بعد ضرور ہو، مکتب ذمہ دار آنے والے اسلامی بھائیوں کو اپنے شعبے کا بھرپور تعارف کروائے۔ (مسجد کے اندر مکتب (المدینہ لائبریری) جس میں رسائل و کتابیں ہوں اور معتکف وہاں بیٹھ کر مطالعہ کر سکیں)
۱۹	مجلس تقسیم رسائل	معتکفین اور ان سے ملاقات کے لیے آنے والے عاشقان رسول میں تقسیم رسائل کی ترکیب کرنا، اس مجلس کی ذمہ داری ہے۔

پاکستان انتظامی کابینہ مکتب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

دُرُودِ شَرِيفِ كِي فَضِيلَت

شیخ طریقت، امیر اہلسنت بانی دعوتِ اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رَضَوِی ضیائی دامت بَرَکاتُہُمُ الْعَالِیَہُ اپنے رسالے ”**مسواک شریف کے فضائل**“ میں فرمانِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ والہ وسلم نقل فرماتے ہیں، ”جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار دُرُودِ پَاک پڑھے، قیامت کے دن میں اُس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ (ابن بشکوال، ص 90، حدیث 90)

صَلُّوا عَلٰی الْحَبِیْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

اجتماعی اعتکاف کے مدنی پھول

﴿1﴾ پورے ماہِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ کے اجتماعی اعتکاف کیلئے ہدف: فی ذیلی حلقہ 2 اسلامی

بھائی (عالمی مدنی مرکز فیضانِ مدینہ باب المدینہ کراچی کے اعتکاف کے اہداف اس کے علاوہ ہیں)

﴿2﴾ اجتماعی اعتکاف (پورے ماہِ رمضان) میں ہر مقام پر کم از کم 15 ایسے اسلامی بھائی اعتکاف کریں، جو بہترین مبلغ، نعت خواں، قاری اور تنظیمی صلاحیتوں کے حامل ہوں۔

﴿3﴾ وَقْفِ مدینہ، 12 ماہ کے مدنی قافلہوں کے مسافر، مختلف کورسز کے اسلامی بھائی، جامعۃ المدینہ، مدارس المدینہ کے طلبہ (جن کی عمر 20 سال سے زائد ہو) کو پورے رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ کا اجتماعی اعتکاف کروائیں۔ ﴿4﴾ جن مساجد میں اجتماعی اعتکاف کی ترکیب بنائیں، اُن میں وسیع فنائے مسجد ہوتا کہ سحری و افطاری کے معاملات وہیں ہو سکیں اور مسجد کسی صورت میں بھی آلودہ نہ ہو۔ نیز جس مسجد میں اعتکاف کرنا ہو، وہاں دیکھ لیجئے کہ مناسب تعداد میں غسل خانے، استنجاء خانے اور وضو خانہ اتنی ٹونیوں والا ہو کہ سب معتکف باسانی وضو کر سکیں۔

بجلی کا معقول انتظام مع (U.P.S اور جنریٹر) کی ترکیب ماہِ رمضان شروع ہونے سے پہلے بنا لیجئے۔

﴿5﴾ مُعْتَكِفِينَ سے اعتکاف فارم پڑ کروایا جائے۔

﴿6﴾ بالخصوص شہر کی جامع مساجد میں خطباء و آئمہ کرام سے اعلانات کروائیے، انہیں اعلان کے ساتھ ساتھ پورے ماہِ رمضان کا اجتماعی اعتکاف کرنے کی ترغیب دلانے کی بھی عرض کیجئے۔

﴿7﴾ دورانِ اعتکاف نمازوں کے بعد ہونے والے درس و بیانات میں مسلسل اعلانات ہوں کہ آپ کی مسجد میں پورے ماہِ رمضان کا اعتکاف ہو رہا ہے، اس میں کچھ وقت گزاریئے۔ ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ اس سے عام نمازی بھی مستفیض ہو سکیں گے اور ان عاشقانِ رسول کو مدنی قافلہوں میں سفر کے لیے تیار کرنے اور دیگر مدنی کاموں میں مصروف رکھنے کا موقع بھی ملے گا۔ ان شاء اللہ عَزَّوَجَلَّ

﴿8﴾ مجلسِ نشر و اشاعت کی معاونت سے اخبارات و رسائل میں پورے ماہِ رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ کے اجتماعی اعتکاف کی خبریں لگوائیئے (پورے ماہِ رمضان کے اعتکاف کے مقام کا مکمل ایڈریس دینے سے عاشقانِ رسول کو آسانی ہوگی)، یہ خبریں اعتکاف شروع ہونے سے قبل اور دورانِ اعتکاف بھی مسلسل چھپتی رہیں۔

﴿9﴾ شعبہ ہائے زندگی سے تعلق رکھنے والے ایسے عاشقانِ رسول جن کی رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ میں قدرے فراغت ہوتی ہے (جیسے میرج ہال، کیٹرنگ، ہوٹل وغیرہ کے مالکان و ملازمین) ان کو بالخصوص اعتکاف کیلئے تیار کیجئے۔

﴿10﴾ شہر کی شخصیات کو بھی پورے ماہِ رمضان کا اجتماعی اعتکاف کروائیے، جو اعتکاف نہ کر سکیں، انہیں دورانِ اعتکاف مدنی مذاکروں، تربیتی حلقوں اور سحری و افطاری کے وقت شرکت کروائیے۔

﴿11﴾ وہ تنظیمی ذمہ داران جن کو رَمَضَانَ الْمُبَارَكِ میں بالخصوص مدنی عطیات جمع کرنے ہوتے ہیں، متعلقہ نگران کی مشاورت سے ان کو اعتکاف کے دوران مختلف ذمہ داریاں دی جائیں مثلاً بیان، تربیتی حلقہ لگانا، انفرادی کوشش، مدرسۃ المدینہ بالغان (مدنی قاعدے کا حلقہ لگانا) وغیرہ۔

﴿12﴾ اعتکاف والی مسجد میں مسجد اور اعتکاف کے آداب (اعضاء کے قفل مدینہ کے بھی) کے پینا فلیکس بنا کر 26 شعبان تک آویزاں کیجئے۔ (وقف اُملاک کی احتیاطوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس طرح آویزاں کریں کہ دیوار وغیرہ خراب نہ ہو، مثلاً کیل وغیرہ نہ ٹھکیں)

﴿19﴾ پورے ماہِ رمضان کا اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائی کا ہر 12 ماہ میں 1 ماہ (30 دن) یکمشت مدنی قافلے میں سفر کرنے والے مدنی انعام پر عمل مانا جائیگا۔

﴿20﴾ جن اسلامی بھائیوں کو **رَمَضانُ الْمُبَارَكِ** کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا ہے، ان کی پہلے ہی سے ترکیب بنا لی جائے کہ وہ **19 رَمَضانُ الْمُبَارَكِ** کو متعلقہ شہروں اور مسجدوں میں پہنچ جائیں۔ بہر حال آخری عشرے کا سنت اعتکاف کسی بھی طرح مُتأَثِّر نہ ہو۔

﴿21﴾ اجتماعی سنت اعتکاف شروع ہونے پر پورے ماہِ رمضان کے اجتماعی اعتکاف والوں کو ساتھ ملا دیا جائے۔

﴿22﴾ اعتکاف کی تنظیمی کمائی بھر پور طریقے پر حاصل کرنے کیلئے اعتکاف کے اختتام پر چاندرات کو ہاتھوں ہاتھ مُعتکفین کو 1 ماہ (30 دن)، 12 اور کم از کم 3 دن کے مدنی قافلوں میں سفر، 12 مدنی کام کورس، اصلاح اعمال کورس، فیضان نماز کورس کروائیے۔ مدنی تربیت پانے والے اسلامی بھائیوں کو ان کی اہلیت کے مطابق ان کے علاقہ / شہر کے ذمہ داران سے مشورہ کر کے ذیلی حلقوں میں 12 مدنی کاموں کی ذمہ داریاں دوران اعتکاف ہی دے دیجئے اور بعد میں ان سے مضبوط رابطہ رکھئے۔

﴿23﴾ ڈویژن / شہر / علاقہ مشاورت کے نگران اپنے ان اسلامی بھائیوں کو جو پورے ماہِ رمضان کے مُعتکف نہیں ہوئے، مُعتکفین کی خیر خواہی کے لئے سحری تا سحری اعتکاف کروائیں اور وہاں سے انہیں ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں میں سفر کروائیں نیز آخری عشرے کے سنت اعتکاف کا ذہن دیں۔

﴿24﴾ نگران و ذمہ داران کے 3 دن کے مدنی قافلے اعتکاف والے شہر کے قرب و جوار میں سفر کروا کر وہاں سے بھی ہاتھوں ہاتھ کم سے کم 3 دن کے لیے عاشقانِ رسول کو تیار کریں۔

﴿25﴾ ضرورتاً رہنمائی کے لیے نگرانِ کابینہ / نگرانِ کابینات / متعلقہ رکنِ شوریٰ سے رابطے میں رہئے۔

پاکستان انتظامی کابینہ مکتب

﴿13﴾ اراکینِ شوریٰ، نگرانِ کابینہ و نگرانِ کابینات، ممکن ہو تو کسی ایک مقام پر پورے ماہِ رمضان المبارک کا اعتکاف فرمائیں (امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ نے ذمہ دارانِ دعوتِ اسلامی کے نام اعتکاف کی ترغیب پڑنی اپنے دردمہرے جذبات کا ایک مکتوب بھی ۹ ذوالقعدة الحرام ۱۴۳۴ھ کو تحریر فرمایا ہے، اس کو خود بھی پڑھنے اور دیگر ذمہ دارانِ دعوتِ اسلامی کو بھی پڑھانے کی مدنی التجا ہے) ورنہ کم از کم ایک سحری سے دوسری سحری تک بلکہ ممکن ہو تو 3 دن مُعتکفین کے درمیان گزاریں، ان کی تنظیمی تربیت کریں، انہیں چاندرات سے ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلوں کے لئے تیار کریں، ان پر شفقتیں فرمائیں۔ اس کے لئے امیرِ اہلسنت دامت برکاتہم العالیہ کے افعال مبارکہ بہترین نمونہ ہیں کہ آپ کس طرح مُعتکفین کے درمیان وقت گزارتے ہیں۔ سحری کے بعد بھی ذمہ دارانِ مُعتکفین کے ساتھ فجر کی جماعت سے قبل تک وقت گزاریں اور ان پر انفرادی کوشش فرمائیں۔

﴿14﴾ **افطار** سے 12 منٹ قبل نعتِ خوانِ اسلامی بھائی (امامِ اہلسنت، مولانا شاہ امام احمد رضا خان، حضرت مولانا حسن رضا خان، حضرت مولانا جمیل الرحمن رضوی، مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان، حضرت مولانا حامد رضا خان، حضرت مولانا نعیم الدین مراد آبادی، حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی اور امیرِ اہلسنت، حضرت مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی) کی منظوم مناجات پڑھیں، گھروں میں بھی افطار سے قبل مدنی چینل پر ہونے والی براہِ راست (Live) مناجات کی ترکیب ہو تو مدینہ مدینہ

﴿16﴾ اعتکاف کرنے والے اسلامی بھائیوں کو بار بار نطفات (صفائی، سُتھرائی) کا ذہن دیجئے۔ اس کیلئے نگرانِ شوریٰ مدظلہ العالی کا کیسٹ بیان ”سادگی اور صفائی“ بھی سنایا جاسکتا ہے۔

﴿17﴾ **اطراف / گاؤں** (یعنی شہر کی نئی آبادیاں اور ایسے علاقے جہاں مدنی کام نہیں یا کمزور ہے) اور قریبی دیہاتوں میں بھی اس اعتکاف کی بھرپور تیاری کر کے وہاں سے اسلامی بھائیوں کو اعتکاف کروائیے۔ (اس سال ان شاء اللہ عز و جل اُطراف گاؤں میں بھی باقاعدہ آخری عشرے کے اعتکاف کی ترکیب ہوگی، اس اعتکاف کے مقام کی پیشگی معلومات کر کے اس اعتکاف کی بھی دعوت دی جائے)

﴿18﴾ اعتکاف کرنے والے ہر اسلامی بھائی پر یہ لازم کیا جائے کہ وہ اعتکاف سے قبل فیضانِ رمضان سے فیضانِ اعتکاف کا مطالعہ کر لے۔ جن جن تک رسائی ہو، ان کو پوچھتے بھی رہیں تاکہ نہ پڑھنے والے بھی پڑھ لیں (اس کی تاکید تا کید سخت تاکید ہے)

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

مختصر جدول برائے اجتماعی سنت اعتکاف ۱۴۳۸ھ/2017ء

مدینہ: متعلقہ رکن شوری یا نگران کا مینا یا نگران کا مینہ سے مشورہ کر کے ضرورتاً جدول میں ترمیم کی جاسکتی ہے۔

❁ **بعد فجر:** تلاوت قرآن، شجرہ شریف کے اواراد، ”مدنی حلقہ“ (قرآن پاک سے کم از کم 3 آیات مع ترجمہ کنز الایمان، تفسیر خزائن العرفان / نور العرفان / تفسیر صراط الجنان)

❁ بعدہ: فیضان سنت (تخریج گنڈہ جلد اول، دُوم کے ابواب، ”غیبت کی تباہ کاریاں“، ”نیکی کی دعوت“) سے اجتماعی درس (12 منٹ)

❁ بعد درس منظوم شجرہ عالیہ (اگر نماز اشراق کا وقت باقی ہو تو انفرادی عبادت کی ترکیب کیجئے) ❁ دُعا میں سیکھے سکھانے کا حلقہ ❁ سلسلہ فاتحہ و ایصالِ ثواب و دُعا۔ ❁ اشراق و چاشت کے نوافل ادا کرنے کے بعد وقفہ برائے آرام۔ ❁ بیداری کے بعد 63 منٹ مدرسۃ المدینہ بالفان کی ترکیب کیجئے۔

❁ **نمازِ ظہر:** بعد ظہر اجتماعی حلقے میں مدنی درس (درس فیضان سنت) (7 منٹ)

❁ اجتماعی حلقہ ”نماز کے احکام“ سے (30 منٹ) ❁ اشارے سیکھنے کا حلقہ (15 منٹ) ❁ فکر مدینہ کا حلقہ (12 منٹ) ❁ سنتیں، آداب اور دُعا سیکھنے کا حلقہ

❁ (20 منٹ) ❁ تصویر برداری کا حلقہ (12 منٹ) (ایسے اسلامی بھائی جو امیر اہلسنت و امت برکاتیم العالیہ سے مرید یا طالب نہیں بلکہ کسی اور پیر صاحب سے مرید ہیں، وہ اپنے پیر صاحب کا تصور جمائیں)۔

❁ **بعد عصر:** مدنی مذاکرہ (آڈیو) (مدنی مذاکرے کا وقت تبدیل بھی ہو سکتا ہے) / تلاوت و نعت اور سنتوں بھرا بیان: 41 منٹ (جہاں مدنی مذاکرے کی ترکیب نہ ہو سکے)

❁ شجرہ شریف کے اواراد (12 منٹ) ❁ دُعاے افطار

❁ **بعد نمازِ مغرب:** نوافل اذائین، سورہ ملک شریف کی تلاوت ❁ وقفہ برائے کھانا و تیاری نمازِ عشاء و تراویح

❁ **بعد تراویح:** وقفہ برائے چائے / مشروب و انفرادی کوشش (26 منٹ)

❁ مدنی مذاکرہ (آڈیو)

❁ وقفہ برائے آرام (سحری کے اختتام سے ایک یا ڈیڑھ گھنٹہ قبل تک / معتقلین کی تعداد کے لحاظ سے وقت میں کمی بیشی کی جاسکتی ہے)

❁ شیخ طریقت، امیر اہلسنت، حضرت علامہ مولانا ابوبلال محمد الیاس عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتیم العالیہ کے سنتوں بھرے اصلاحی پیامات اور مدنی مذاکرے (روزانہ

بعد ظہر/ بعد عصر اور بعد تراویح) براہ راست (Live) ٹیلی کاسٹ ہوتے رہیں گے۔ ان شاء اللہ عزوجل۔ یاد رہے! دارالافتاء اہلسنت کی طرف سے مسجد و فناء مسجد اور ایسی جگہ جہاں دیکھنے والوں کو ایسا لگے کہ مسجد میں مدنی چینل چل رہا ہے، میں ”مدنی چینل ویڈیو“ دیکھنے کی اجازت نہیں۔

چند اہم مدنی التجائیں

❁ پورے ماہ رمضان کے اعتکاف کا جدول 10 دن کے اعتکاف کے لیے بھی ہے۔

مگر

❁ ”مدنی قاعدہ“ تختی نمبر 1 سے شروع کیجئے۔ ❁ ”نماز کے احکام“ بھی آغاز سے لیجئے۔ ❁ اگر وقت مطابقت نہ کرے تو نگران اعتکاف مجلس، نگران شہر/ ڈویژن

مشاورت سے مشورہ کر کے مناسب ترکیب کر لیں۔ ❁ شب قدر کے اجتماع ذکر و نعت کا اختتامی وقت انتہائے سحر سے ڈیڑھ گھنٹہ قبل ہو۔ ❁ جدول میں جہاں جہاں فیضان

سنت کا درس ہے سنی الامکان کوشش کیجئے کہ ”غیبت کی تباہ کاریاں، نیکی کی دعوت“ سے درس ہو۔ ❁ جدول میں مخصوص کردہ رسالہ یا CD دستیاب نہ ہو تو امیر اہلسنت

دامت برکاتیم العالیہ کے کسی اور رسالے یا کسی اور CD کی ترکیب بنا لیجئے۔

پاکستان انتظامی کابینہ مکتب

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ أَمَا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ط

”رمضان المبارک“ کے 12 حروف کی نسبت سے 12 مدنی پھول

﴿1﴾ صبح صادق سے تقریباً 1 گھنٹہ قبل مساجد میں مائیک پر صدائے مدینہ برائے سحری کی ترکیب کیجئے۔ (کلام فیضان سنت جدید ص 844 پر ملاحظہ فرمائیے)

﴿2﴾ مدرسۃ المدینہ بالغان (63 منٹ) کے لیے رمضان میں غالباً دو وقت بہتر ہیں۔ بعد فجر یا بعد نماز تراویح (مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے)، جہاں جو وقت بہتر ہو وہ اختیار کیا جائے۔

﴿3﴾ ممکن ہو تو پانچوں نمازوں میں مدنی درس (درس فیضان سنت) (باب فیضان رمضان وغیرہ) کی ترکیب کیجئے۔

﴿4﴾ بازار وغیرہ میں چوک درس کی ترکیب ہو تو مدینہ مدینہ۔۔۔۔

﴿5﴾ ذیلی حلقے کے 12 مدنی کام بالخصوص مدنی قافلہ، مدنی انعامات، ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اور رمضان میں روزانہ

کے 2 مدنی مذاکروں (کی دعوت) وغیرہ کی خوب خوب دھومیں مچائیے۔ ﴿رمضان المبارک میں ہفتہ وار اجتماع کا جدول عصر تا مغرب ہوگا، جہاں پورے ماہ رمضان کے اعتکاف میں ویڈیو مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترکیب ہوگی، وہاں کے متعلمین جمعرات کو بھی مدنی مذاکرے کے جدول میں شامل ہوں (اگر وقت مطابقت کرتا ہو تو)﴾

﴿6﴾ ”مدنی دورے“ کا سلسلہ روزانہ ہو تو مدینہ مدینہ۔۔۔۔ (قبل ظہر دعوت، بعد ظہر بیان)

﴿7﴾ ہر سطح کے مدنی مشوروں کا سلسلہ (جدول کے مطابق) ماہ رمضان میں بھی (پابندی وقت کے ساتھ) جاری رکھیے۔

﴿8﴾ اجتماعی اعتکاف (پورا ماہ رمضان/آخری عشرہ) کی بھرپور تیاری کیجئے۔ (مختلف شعبہ جات کی شخصیات کو بھی اعتکاف کروائیے)

﴿9﴾ اجتماعی اعتکاف (پورا ماہ رمضان/آخری عشرہ) کے انتظامات و اخراجات اور مدنی مرکز کے دیے ہوئے جدول پر عمل درآمد کرانے کے لیے 3 یا 5 رکنی انتظامی مجلس بنا دیجئے۔ (اعتکاف کی مجالس کی تفصیل میل کی جا رہی ہے)

﴿10﴾ صرف رمضان المبارک میں نماز پڑھنے والوں پر انفرادی کوشش کر کے انہیں پکا نمازی بنانے کی کوشش کیجئے۔

﴿11﴾ رَمَضَانُ الْمُبَارَكِ مِیں اِنْفَارِ اِجْتِمَاعَاتِ كِیجئے۔ (رباہشی ہاٹلز، شخصیات کے گھروں، مسجد وغیرہ میں)

﴿12﴾ 1 لاکھ 95 ہزار سے زائد طلبہ و طالبات کو مفت تعلیم قرآن (حفظ و ناظرہ) کے لیے مدرسۃ المدینہ، تقریباً 35 ہزار سے زائد طلبہ و طالبات کو عالم و عالمہ بنانے والے کورس درس نظامی سے مزین کرنے کیلئے جامعۃ المدینہ، اہل علم اور مفتیان کرام کے ذریعے قرآن و سنت کی روشنی میں دینی مسائل کی شرعی رہنمائی کیلئے دارالافتاء اہلسنت، کئی زبانوں میں معیاری و مستند کتب و رسائل تحریر کرنے کیلئے المدینۃ العلمیہ اور مجلس تراجم، مساجد، جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ کی تعمیر کیلئے خدام المساجد اور الیکٹرونک میڈیا کے ذریعے دنیا بھر میں گھر گھر نیکی کی دعوت کی دھومیں مچانے کیلئے الیکٹرونک مبلغ مدنی چینل سمیت کل 103 شعبہ جات کے لیے مدنی عطیات جمع کرنے کی خوب خوب انفرادی کوشش کیجئے اور ذمہ داران کو بھی ذہن دیجئے۔ ماہ رمضان المبارک میں ہر نماز کے بعد ہر مسجد کے باہر مدنی عطیات/فطرے کے بستے کی ترکیب بنائیے۔ (بالخصوص جمعہ، شب قدر (27 رمضان)، نماز عید الفطر، ہفتہ وار اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ میں اہتمام کے ساتھ مدنی بستوں کی ترکیب کیجئے۔)

پاکستان انتظامی کابینہ مکتب

تاریخ اجراء: ۱۱ شعبان المعظم ۱۴۳۸ھ، 8 مئی 2017ء